

وَمَنْ يَتَبَعَّغُ عَيْرَ الْأَسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

ترجمہ: جو شخص اسلام کے سوا اور دین اختیار کرے کا پھر اس سے قبول نہیں کیا جائے گا

حق پرست علمائی مودودیت کے ناراںی کے لیاں



قطب القطاب شیخ القیم
حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ

اجزء خالد اصل اسلام حنفیہ قادریہ

۲۸ - جی نی روڈ، باغبان پورہ، لاہور

وَمَنْ يَدْبَغْ غَيْرَ الْأَسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

ترجمہ جو شکلِ سلام کے سوا اور دین اختیار کرے گا پھر اس سے قبول نہیں کیا جائے گا

حق پرست علمائی مودودیت نازکی کے سبب

مرتب

قطب القطاب شیخ التفییر
حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ

ابن حجر خدا مسلمان اسلام حقيقة قادریہ

۲۸۵ - جی نی روڈ، باغبان پورہ، لاہور

ہم کتاب	:	"حق پرست علماء کی مورودت سے مارکٹ کے اسیب"
مرتب	:	شیخ التفسیر مولانا حمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ
تاریخ اشاعت جدید ایڈیشن:	:	نومبر 1997ء
تعداد	:	ایک ہزار
پرنٹر	:	امین خدام الاسلام باغبانپورہ
ناشر	:	المدد کپوزنگ سٹریٹ پرم گلر لاہور
کپوزنگ	:	45 روپے
قیمت	:	

ملئے کے پتے

جامعہ حفیہ قادریہ 285 جی۔ لی روڈ باغبانپورہ لاہور
 مکتبہ قاسمیہ الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور
 مکتبہ سید احمد شمید، اردو بازار لاہور
 مکتبہ مدنسیہ، اردو بازار لاہور
 مکتبہ مجیدیہ، بیرون بوہر گیٹ ملتان
 مکتبہ علمیہ سائٹ ایریا کراچی نمبر ۲۶
 کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
 مکتبہ گلستان اسلام کرہ نمبر ۵، قدانی مارکیٹ اردو بازار لاہور
 عمران آکیڈمی، ۳۰ بی اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين أصطفى

اما بعد! رسول الله ﷺ کار شاہر ہے:

**ترکت فیکم امرین لَن تضلو اما ماتمسکتم بهما
كتاب الله و سنه رسوله**

ترجمہ: "میں تم میں دو چیزوں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے ہرگز گراہ نہیں ہو گے اور وہ دو چیزوں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت ہیں"۔
حاصل یہ نکلا کہ قرآن مجید اور سنت نبی کریم ﷺ قیامت تک حفظ رہے گی۔
میں نے مودودی صاحب کی کتابوں میں دیکھا کہ وہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ ﷺ کے بعض نیادی اصولوں کی توجیہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان توجیزوں کی اشاعت "نوائے پاکستان" میں کر دی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مودودی صاحب اور ان کے معتقدین کو تنبہ ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور باقی مسلمان اس فتنہ مودودیت میں مبتلا ہونے سے فجع جائیں۔ دراصل یہ چیزوں اخبار سے پہلے رسالہ میں مرتب شدہ تھیں۔

احقر الامان احمد علی غنی عن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

امام العلماء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری قدس اللہ سرہ العزز، ایک ایسے مصلح، حکیم اور عارف باللہ تھے جنہوں نے اپنی نصف صدی سے زائد کی عملی زندگی میں دین اسلام کی خدمت کے حوالہ سے تن تھا تنا کام کیا کہ آج اس کا تصور بھی مشکل ہے..... جس شخص کو معرفت اللہ نصیب ہو جاتی ہے، اس کا یہاں مسئلہ ہوتا ہے اور یادِ اللہ میں اس کی ذوبی ہوئی روح بتفیقِ اللہ بہت کچھ کر گزرتی

آپ کے متعدد کاربائے نمایاں میں سے ایک کام ان کا وہ عظیم الشان تحریری سرمایہ ہے، جو ہزاروں نمیں لاکھوں کی ہدایت کا باعث بنا..... اس تحریری سرمایہ میں سے ایک رسالہ یہ ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کے فاسد نظریات کی تردید میں جس دلسوzi اور خلوص سے یہ رسالہ لکھا گیا ہے، اس کا اندازہ تو مطالعہ کے بعد ہی ہو گا۔ لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ان کے انتقال کے بعد اس رسالہ کی ضرورت پر شاید کوئی دوست سوال کریں تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ معاملہ مودودی صاحب کی ذات کا نہیں، ان کے نظریات کا ہے اور وہ جس شکل میں آج موجود ہیں، ان کا اندازہ شکل نہیں..... مودودی صاحب کے معتقدین ایک نئے نہب کے گواہ علمبردار بن چکے ہیں اور انکی ہربات ان کے لئے حرف آخر ہے..... مودودی صاحب کی زندگی کا آخری نتیجہ کروہ سرمایہ ان کی کتاب "خلافت و ملوکیت" تھی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف گویا "فرد جرم" تھی۔ جن لوگوں نے جماعتی عصیت سے اس "فرد جرم" کو گل لگایا وہ آج ٹھیکن صاحب کے شیعی انقلاب کو اسلامی انقلاب کہ کر اپنا خروی مستقبل تاریک کر رہے ہیں۔ (الله رب العزت ہر قسم کی گرائی سے بچائے)

یہ رسالہ ۱۹۵۲ء میں پہلی مرتبہ چھپا۔ اسی ایڈیشن کو سامنے رکھ کر جدید کمپیوٹر کتابت سے اسے اب شائع کیا جا رہا ہے۔ مودودی صاحب کی کتب و رسائل کے حوالہ جات کے لیے حضرات ناظران کرام تحریف سے پاک ایڈیشنوں کا لحاظ رکھیں گے تو انشاء اللہ کمیں بھی بال برادر فرقہ محسوس نہ ہو گا۔ رسالہ چونکہ عرصہ سے ناپید تھا اس لیے حضرت مولانا عبد اللہ انور زید مجدد ہم جو اپنے والد بزرگوار کے صحیح جانشین ہیں کی تحریری اجازت ۲۶ جنوری ۱۹۸۳ء کے بعد کتابت وغیرہ کا اہتمام کیا گیا۔ جبکہ ۳۱ جنوری ۱۹۸۳ء کو بھی ایک گرائی نامہ میں مولانا نے اس کی جدید طباعت پر سرت کاظمیار فرمایا تھا۔ جن دوستوں نے اس کا اہتمام کیا اللہ رب العزت انہیں جزاۓ خیر دے اور اس رسالہ کو اللہ تعالیٰ گم کر دہ راہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین

بِحَرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ التَّحْيَةُ وَالتَّسْلِيمُ

۱۴۔ شاہ جمال لاہور، نمبر ۷۲

۲۲ فروری ۱۹۸۳ء ۲۵ جمادی الاولی ۱۴۰۳ھ

فہرست

صفہ		
6	مودودیت کی تحریک قرآن و سنت کی روشنی میں	-1
11	مودودی صاحب محمدی اسلام کا ایک ایک ستون گرار ہے ہیں	-2
15	مودودی صاحب کے قلم سے خانہ کعبہ کی توجیہ	-3
17	مودودی صاحب کا عقیدہ کہ رسول اللہ ﷺ نے غلط باعث فرماتے تھے	-4
25	مودودی صاحب کی عبارات میں اللہ تعالیٰ کی توجیہ	-5
29	مودودی صاحب کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کو جھلانا	-6
31	دربار نبوی ﷺ سے خلافت عثمان کی تعظیم اور مودودی کی طرف سے توجیہ	-7
37	حضرت عثمانؓ کی ذات اور آپؑ کے دور خلافت کی توجیہ	-8
39	اسلام کے متعلق مودودی صاحب کے غلط تصورات	-9
42	دربار رسالت سے تمام صحابہ کرامؓ کے احترام کا حکم	-10
45	مودودی صاحب کو کسی ایک حدیث پر تیعن نہیں	-11
50	علم حدیث کی اہمیت	-12
52	حمد شیعیں حضرات کی توجیہ	-13
56	علمائے کرام پر طعن	-14
57	تمام مفسرین اور محمد شیعیں کی توجیہ	-15
58	مودودی صاحب کی طرف سے تمام مجددیں کی توجیہ	-16
62	مجدد کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ کافی صد	-17
63	مودودی صاحب کا فیصلہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف	-18
63	رسول اللہ ﷺ کی توجیہ کی توجیہ اور اجماع امت کی توجیہ	-19
66	مودودی صاحب کا اتباع سنت کا نظریہ قرآن مجید، رسول اللہ ﷺ اور تمام مسلمانوں سے الگ ہے	-20
69	مودودی صاحب کے بہل سنت کے معنی	-21
71	مودودی صاحب کا لیا اسلام	-22
77	مودودی صاحب کا پول کھولنے کی ضرورت	-23
79	دنیا در اروں اور دین در اروں کی لڑائی کا فرق	-24
82	مودودی صاحب کی عبارت	-25
87	علمائے کرام کی تصدیقات	-26

مودودیت کی تحریک تاریخ و سنت کی روشنی میں

**مولانا قاری محمد طیب مہتمم دار العلوم دیوبند کا ایک پرانا مکتب
از جناب مولانا محمد عبد اللہ صاحب**

”ادارہ نوائے پاکستان“ نے جب سے اسلام و شمن عاصر کی سرکوبی کافیصلہ کیا، مودودی صاحب اور ان کی جماعت کی اصلی حقیقت سے عوام کو روشناس، کرنے کے لیے حضرت مفسر قرآن مولانا احمد علی صاحب نوراللہ مرقدہ و دیگر علمائے ملت کے مضامین شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو جماعت اسلامی کے پریس نے یہ زہر اگنا شروع کر دیا کہ یہ اسلامی دستور کے خلاف سازش ہے جو کسی کے شہ پر کی جا رہی ہے۔ عام مجالس میں بھی دھوکہ دہی کا یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ آج تک ”نوائے پاکستان“ میں اس سلسلہ کے جتنے مضامین شائع ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی مدلل اور تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ البتہ بزرگان دین کو منذب گالیوں سے نواز آگیا ہے۔ اب جماعت اسلامی والے دوست اپنے مستقبل کو تاریک دیکھ کر ہرگلی کوچہ میں ہر اسلام و پریشان پھر رہے ہیں۔ اپنے ذہنوں پر زور دیتے ہیں لیکن اس کے سوا کوئی جواب نہیں بن پڑتا کہ مودودی صاحب نے تو مت سے کتابیں لکھیں اور ان مولویوں نے اب مخالفت شروع کی۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اس اختلاف کی محرك کوئی اور چیز ہے۔

ہم تو صالح برادری کے ایسے ارشادات پاکیزہ سن کر جیان رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہ رہے ہیں؟ یہ حضرات اگر اپنی آنکھوں پر پٹی نہ باندھتے، آنکھیں

کھولتے اور کچھ بیچھے کی جانب مرکز کی بھت تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ علمائے حق مودودی صاحب کی اندھار ہند فائزگ کے مقابلہ میں صرف اب نہیں صفائی آراء ہوئے بلکہ ویئی امور میں مودودی صاحب نے آزادانہ افکار کے خطرات کو اول روز سے محسوس کر رہے تھے۔ ہر موقع پر ضرورت کی حد تک ان کے متعلق اپنے نظریات کی اشاعت بھی کی گئی۔ چند سال پیشتر علمائے دیوبند نے اس سلسلہ میں ایک مکمل لٹریچر شائع کر کے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہ تحریر جو ہدیہ ناظرین کی جا رہی ہے، یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یہ تحریر ”روزنامہ آزاد“ لاہور، مورخہ ۱۵ صفر ۱۳۶۲ھ مطابق ۱۹۴۳ء میں شائع کی گئی تھی۔ امید ہے کہ قارئین ”نوائے پاکستان“ کو اس کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہو گا۔ (محمد عبداللہ کان اللہ) مولانا قاری محمد طیب نے مولانا عبد الجبار ابو ہری کے استفسار کے جواب میں تحریر کیا:

نحمدہ و نصلی! حضرت المحتشم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

گرامی نامہ باعث سرفرازی ہوا۔ یاد آوری کا ممنون ہوں۔ مودودی صاحب کی جماعت کے بعض زمہدار حضرات نے مجھے ان کا لٹریچر بھی اسی غرض سے عنایت فرمایا کہ میں ان کی تحریک حکومت الیہ کے بارے میں بصیرت سے کوئی خیال ظاہر کر سکوں۔ ماضی قریب میں محمود الصدر کی یاد دہانی کا دلالات نامہ بھی آیا جس میں رائے ظاہر کر دینے کے بارے میں تذکیر کی گئی تھی۔ قلت فرصت اور کثرت مشاغل کے سبب ابھی تک ان کے پاس رائے لکھ کر ارسال نہیں کر سکا ہوں جس کا افسوس ہے۔ موصوف منتظر ہوں گے۔ اسی دوران میں جناب کا دلالات نامہ صادر ہوا جو مزید تذکیر کا باعث ہو گیا۔ اس لیے تحریک مذکورہ کے بارے میں یادداشت قلمبند کی، جسے ان کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں۔ وہی مضمون جناب کی خدمت میں بھیج دیتا ہوں۔

میں نے اس تحریک کے لٹریچر کا بنیادی حصہ اور بعض ٹریکٹ اور پہلٹ

بلاستیعاب رکھے۔ جہاں تک نفس تحریک حکومت الٰہی اور اس کے نصب العین کا تعلق ہے، مجھے اس میں کوئی چیز خلاف شریعت محسوس نہیں ہوئی بلکہ تغیری رنگ میں یہ ایک اچھی اور مفید تحریک ہے۔ اگر اس کے اصلی اور صحیح رنگ میں اسے آگے بڑھایا جائے۔ البتہ اس سلسلہ میں جہاں تک مودودی صاحب کی فقد و تصوف میں رائے زندگی اور دخل دینے کا تعلق ہے مجھے اس سے شدید اختلاف ہے۔ میں ان کی تحریرات اور طرز استدلال نیز نویعت معلومات سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ نہ انہیں دونوں فنون سے مناسبت ہے اور نہ وہ ان میں مستند معلوم ہوتے ہیں۔ اس بارہ میں ان کی رائے غیر صاحب فن اور غیر مبصر کے عقلی استنباط سے زیادہ کوئی درجہ نہیں رکھتی جو ظاہر ہے کہ مذاق فن لامعی ماہرین کے سامنے کسی درجہ قابل التفات نہیں ہو سکتی۔ موصول کے اصول پر جبکہ مستند علمائے ماہرین دین حتیٰ کہ سلف صالحین کا اجتماعی استنباط اور فہم نصوص کسی درجہ میں بھی قابل اعتبار نہیں تو ان کے اصول پر خود ان کا استنباط یا فہم نصوص دوسروں کے لیے کیسے قابل قبول اور لائق اعتماء ہو سکتا ہے۔

نفس کے الفاظ میں تو بحث ہے ہی نہیں کلام تولدیں میں ہے اور مدلول کی تعیین میں فہم کا دخل ہے اور وہی چحت نہیں تو خود ان کے فہم یا استدلال سے کسی فہم کو کیسے تسکین ہو سکتی ہے۔ اس لیے فہم اور تصوف میں جس حد تک ان کے استدلال یا استنباط یا بیان مفہوم کا تعلق ہے نہ وہ جھٹ ہے نہ قابل التفات۔ سلف و خلف کے فہم و استنباط کا جب مقابلہ ہو گا تو موصوف تو خلف جیسی قریب العدد افراد کے مفہوم و استدلال کو معتبر کیسیں گے اور ہمارے نزدیک قصہ بر عکس ہو گا۔ اس لیے فہم و تصوف کے بارے میں ان کی پیش کردہ آراء و قیاسات فتنی حیثیت سے قبولیت کا کوئی مقام نہیں رکھتے۔ بنابریں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی مزمومد جزئیات قیمه یا مسائل تصوف وغیرہ پر کوئی تنقید کی جائے اور اس کا حکم معلوم کیا جائے۔

اس نہ کو رہ بالا معیار سے ان ساری جزئیات کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ رہا اصلی
فقہ و تصوف، سو میں سمجھتا ہوں کہ ان نفوس کو ساقط الاعتبار ٹھہرا کر خود اس تحریک
حکومت الیہ کو نہ چلایا جاسکتا ہے اور نہ قابل اعتبار ہی باور کرایا جاسکتا ہے۔
میونکہ اللہ کی حکومت عالم آفاق میں تو اس حد تک ظاہر و مشاہد ہے۔ اس کے
منوانے کے لیے کسی رسمی تحریک کے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تحریک کی
اگر ضرورت ہے تو انفس ہی کے لیے ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے ظاہر و باطن پر
خدائی حکومت کا سکھ مسلط ہو جائے اور اعمال ظاہر و باطن کے لحاظ سے بالارادہ
قانون الہی کے وفادار اور پابند ہوں کہ یہی پابندی ظاہر و باطن کے حق میں حکومت
الہی کا ظہور کملائے گی اور ظاہر ہے کہ الہی حکومت کے احکام ظاہر کے مجموعہ کا
اصطلاحی نام فقہ اور احکام باطن کے مجموعہ کا نام اصطلاحی طور پر تصوف ہے جن کی
بیانیں قرآن و حدیث نے قائم کی ہوئی ہیں۔ جب ان دونوں کے انکار یا تعریف
سے ظاہر و باطن کو علیحدہ کرتے رہ گئے تو حکومت الیہ کا سد باب تو پسلے ہی ہو گیا۔
پھر حکومت الہی کے نام سی ان نفوس پر آخر سلط کس چیز کا ہو گا جس کی تحریک کی
جائے۔ ع یکے بر سرشاخ و بن می بردید

اس صورت میں حکومت الیہ کا عنوان نصب العین نہ ہو گا بلکہ محض ایک
سیاسی نعروہ رہ جائے گا جو خود اپنے مفہوم کی تکذیب کرتا رہے گا اگر خدا انخواستہ
یہی صورت رہی تو میرا مگن یہ ہے کہ اس تحریک کا انجام ان ہی تحریکوں جیسا
ہو گا۔ جو اپنے وقت میں کسی نہ کسی اسلامی نعروہ کے ساتھ اٹھیں اور انجام
کار کسی نہ کسی غیر اصلاحی مقصد یا اسلامی مقصد کے خلاف بیٹھ ہو گئیں۔ خوارج
نے سب سے پسلے حکومت الیہ کا اسلامی نعروہ لگایا لیکن اس کے نتیجہ میں فتنہ
عقائد اور فتنہ صحابہ کے غیر اسلامی مقاصد نکل ائے یا آخر کے دور میں مثلاً سرید
نے تعلیم و ترقی کا نعروہ لگایا مگر اس کے نتیجہ سے انکار خوارق و مجرمات اور فتنہ
عقائد نکل آیا۔ مشرق نے قوی عسکریت اور تنظیم کا نعروہ لگایا اور اس کے نتیجہ سے

نکل آیا مولوی کاغذ مذہب۔

غرض ان تمام تحریکوں کا عنوان اور نعرو اسلامی تھا اور اس کے نتیجے مقاصد غیر اسلامی، نتیجہ یہ ہوا کہ ناسیحہ عنوان کی خوشنائی سے بٹلا ہوئے اور سمجھدار حقیقت کو سمجھ کر بچے رہے اور اس طرح تفریق ہو کر مسلمانوں کے بہت سے افراد ان سے کٹ بھی گئے اور ان کے مقابل بھی آکھڑے ہوئے اور فتنہ تجزیب اور اختلاف نے امت کو گھیر لیا۔ اگر تحریک حکومت اللہ نکے پاکیزہ عنوان کے نتیجے سے فقه و تصوف کا انکار اکابر امت کی تحریکین وغیرہ برآمد ہوتی رہیں تو جس تفریق امت پر مذکورہ تحریکات منتج ہوئیں، اسی پر یہ تحریک بھی منتج ہو گی۔

بہر حال میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر مولانا مودودی ایک سیاسی مفکر کی حیثیت سے اپنی سیاست کو مسلمانوں کے سامنے تغیری رنگ میں پیش فرماتے رہیں اور غیر دینی سیاستوں کی تنقید کر کے مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھنے اور اللہ کی حکومت سے وابستہ رکھنے کی کوشش میں لگے رہیں تو ان کی تحریک مفید اور کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ مفتی یا شیخ بالد کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے آئیں گے تو مسلمان انہیں قبول نہ کریں گے اور اس کا نتیجہ تحریک میں اضحاک یا مضر ہونے کی صورت میں برآمد ہو گا اور اس طرح ایک اچھی خاصی اسلامی سکیم ضائع ہو جائے گی۔

یہ حاصل ہے اس مفہوم کا جو میں مولانا مودودی کے لڑپر سے سمجھتا ہوں۔ رائے اہل الرائے کی ہوتی ہے اور حضرات علماء ہی کے افادات اس کے بازے میں معتبر اور مقبول ہونے چاہیں۔ لیکن جبکہ خصوصیت سے اس بارے میں جناب نے اور دوسرے حضرات نے مجھے قابل خطاب سمجھا تو جو فہم و خیال میں آیا، عرض کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ مزاج سامی بعافیت ہو گا۔ والسلام
(محمد طیب مستمسِم دارالعلوم دیوبند)

مودودی صاحب محمدی ملٹری ہائیک اسلام کا ایک ایک ستون گرا

رسہ ہیں

مودودی صاحب نے اپنی تحریک کی بنیاد حکومت الیہ پر قائم کی تھی۔ حکومت الیہ کے لفظ میں مسلمان کے لیے جو بے پناہ جازبیت ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اگرچہ وہ قیام پاکستان کے بعد حکومت الیہ کا لفظ کبھی اتفاقیہ ہی استعمال کرتے ہیں اور اب نئے ماحول میں بمحاذ مصلحت انہوں نے اسی پر اپنے "چولہ" پر "اسلامی نظام" کا عبارے جدید پن لیا ہے اور بجائے حکومت الیہ کے نظام اسلامی کا انعروالگار ہے ہیں۔

نیا اسلام

اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تحریک مودودیت کے متعلق جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ تعصب، ضد یا کسی عداوت کی بنابر نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ والے اسلام کی حمایت اور مودودی صاحب اور ان کے حلقة بگوشان کی خیرخواہی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نئے اسلام سے توبہ کر کے اصلی محمدی (ملٹری ہائیک) اسلام کی طرف پھر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسلمان اب تک اس دام میں نہیں پہنچئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دام ہم رنگ زمین میں پھنسنے سے بچائے۔

اور تحریک مودودیت کے متعلق اپنے خیالات کو بذریعہ اخبار شائع کرنے کی

ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے احباب مغربی پاکستان کے ہر صوبہ میں موجود ہیں۔ وہ بجھ سے اس تحریک کے متعلق سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ ”نوائے پاکستان“ میں اپنے خیالات شائع کر دوں تاکہ ایک ہی مرتبہ سب احباب مطلع ہو جائیں۔ برادران اسلام! مودودی کی تحریک کو بنظر غور دیکھا جائے تو ان کی کتابوں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے:

”مودودی صاحب ایک نیا اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک نیا اسلام لوگ تب ہی قبول کریں گے، جب پرانے اسلام کی درود دیوار مندم کر کے دکھادیئے جائیں اور مسلمانوں کو اس امر کا یقین دلا دیا جائے کہ ساڑھے تیرہ سو سال کا اسلام جو تم لیے پھرتے ہو، وہ ناقابل قبول، ناقابل روایت اور ناقابل عمل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس نئے اسلام کو مانو اور اسی پر عمل کرو جو مودودی صاحب پیش فرمائے ہیں۔“

اے اللہ! میرے دل کی دعا قبول فرماء۔ مودودی صاحب کو ہدایت عطا فرماؤ در ان کے متبیعین کو بھی اس جدید اسلام سے توبہ کی توفیق عطا فرماؤ اور انہیں اپنا محمدی اسلام پھر نصیب فرماء۔ آمین یا الہ العالمین

مودودی صاحب محمدی اسلام کا ایک ایک ستون گرار ہے ہیں

۱۔ خانہ کعبہ کی توہین

ایسی جو ایک غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جانتا ہے کہ کعبتہ اللہ دنیا کے ستر کروڑ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے۔

۲- رسول اللہ ﷺ کی توبین

کہ آپ ﷺ بھی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ نعوذ بالله من ذالک۔

۳- اللہ جل شانہ کی توبین

کہ حضور اکرم ﷺ جو کچھ فرماتے ہیں، وہ میری ہی طرف سے آپ ﷺ کے دل پر القا ہوتا ہے اور مودودی صاحب کے خیال میں یہ اعلان غلط ہے۔ کیونکہ آپ نے بہت سی باتیں ایسی فرمائیں جو واقعہ میں غلط تھیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ﷺ کے متعلق اعلان عام غلط تھا۔

۴- حضرت عثمان التبعیؑ کی توبین

۵- حضرت سعد بن عبادہ التبعیؑ کی توبین

۶- تمام محدثین رحمم اللہ عنہم کی توبین

۷- تمام مفسرین رحمم اللہ تعالیٰ کی توبین

۸- تمام مجددین رحمم اللہ تعالیٰ کی توبین

۹- رسول اللہ ﷺ کے تجویز کردہ سارے دین کی توبین

یہ عنوانات مشتبہ نمونہ از خروارے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان تمام عنوانات پر ”نوائے پاکستان“ میں مودودی صاحب کی تحریریں بحوالہ صفحہ پیش کی جائیں گی۔ آج کی صحبت میں مودودی صاحب نے خانہ کعبہ کی جو توبین کی ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توبین پیش کرنے نے قبل خانہ کعبہ کی جو تعظیم قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، وہ ملاحظہ ہو:

قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی تعظیم

قولہ تعالیٰ: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي
بِيَكْتَهُ مُبَارَكًا وَ هُدًى لِلْغَلَمَانِ۝ فِيهَا يَاتُّ بَيْتُ
مَكَامٍ لِإِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا (الایہ 'آل عمران'،
نمبر ۳۰)

"بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے مقرر ہوا،
یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، اور جہاں کے لوگوں کے لیے
ہدایت ہے۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں۔ جیسے مقام ابراہیم اور جو اس
کے اندر آیا، اس کو امن ملا۔

خانہ کعبہ کی فضیلیتیں

۱- خانہ کعبہ کی خصوصیات

ان آیات میں یہ بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی عبادت گاہ جو دنیا میں تعمیر
ہوئی تھی وہ خانہ کعبہ تھا۔ تفسیر خازن، جلد اول میں ہے۔ حضرت علی رض
نے فرمایا:

"الله تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک گھر بنایا اور وہ بیت المعور
ہے اور فرشتوں کو حکم فرمایا (جو زمین پر تھے) کہ زمین میں ایک گھر
بنائیں جو اس جیسا ہو۔ پھر انہوں نے یہ گھر (بیت اللہ الحرام) بنایا اور
جو زمین میں تھے، انہیں فرمایا کہ اس کا طواف کریں جس طرح کہ
آسمان والے بیت المعور کا طواف کرتے ہیں۔

۲- اس خانہ کعبہ کو مبارک کا لقب عطا فرمایا۔ لہذاں وقت سے لے کر

آج تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مبارک ہی رہے گا۔ کبھی اس کی برکت میں فرق نہیں آئے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص بیت اللہ الحرام کا طواف کرے گا، کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور نہیں رکھتا مگر اللہ اس کے سب سے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔

۳۔ رفیعہ ایات بیفت

وہ یہ ہیں، مقام ابراہیم علیہ السلام یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ مجرaso، طیم، زمزم، امن گاہ۔ اگر کوئی شخص کسی کو حرم سے باہر قتل کر کے آئے اور حرم میں داخل ہو جائے تو حرم کے اندر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ خانہ کعبہ اس جیسا مقدس اور برکتوں والا دنیا بھر میں اور کوئی مقام نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے شعلہ میں سے ایک شعار ہے۔

مودودی صاحب کے قلم سے خانہ کعبہ کی توہین

مودودی صاحب کی عادت ہے کہ ایک چیز کے محاذ بیان کرتے وقت ایک ایسی براہی بھی بیان کر دیتے ہیں جس سے انصاف پسند انسانوں کے دل جل جائیں۔ جب ان کے معتقدین کو وہ براہی دکھائی جائے تو کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے اسی چیز کے اوصاف حمیدہ بھی تو فرمادیئے ہیں۔ آپ ان کمزور چیزوں پر کیوں خواہ نخواہ زور دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں مفترض کا دل ہرگز ہرگز

مطمئن نہیں ہوتا۔ اس صورت کی مثال بعینہ ایسی ہے جس طرح ایک شخص کے خاندان کی بڑی تعریف کی جائے کہ آپ کا خاندان بڑا ہی معزز ہے اور آپ کے والد صاحب بڑے بزرگ ہیں اور آپ کے دادا تو قابل زیارت بزرگ ہیں مگر بعض آدمیوں سے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ کیا اس آخری فترے سے اس شخص کا دل نہیں جلتے گا اور ساری تعریف ملیا میثنا ہوگی۔

جاہلیت اور منتگری

مودودی صاحب اپنے خطبات مطبوعہ بارہ قسم ۱۹۲۸ء کے صفحہ ۱۹۵ پر لکھتے

ہیں:

”وہ سرزیں جماں سے کبھی اسلام کا نور عالم میں پھیلا تھا، آج اسی جاہلیت کے قریب پہنچ گئی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے بتلا تھی۔ اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے نہ اسلامی اخلاق ہیں۔ نہ اسلامی زندگی ہے۔ لوگ دور دور سے بڑی گھری عقیدتیں لیے ہوئے حرم پاک کا سفر کرتے ہیں مگر اس علاقے میں پہنچ کر جب ہر طرف ان کو جمالات، گندگی، طمع، بے حیائی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، بدانتظامی اور تمام باشندوں کی حالت گری ہوئی نظر آتی ہے تو ان کی توقعات کا سارا طلسم پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بست سے لوگ مج کر کے اپنا ایمان بڑھانے کی بجائے اور الثاپکھ کھو آتے ہیں۔“

وہی پرانی منتگری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جاہلیت کے زمانہ میں کعبہ پر مسلط ہو گئی تھی اور جسے رسول اللہ ﷺ نے آکر فتح کیا تھا۔ اب پھر تازہ ہو گئی ہے۔ حرم کعبہ کے منتظم پھر اسی طرح منت بن کر بیٹھے گئے

بیں۔

انصار کی اپیل

مودودی صاحب ان کے تبعین اور تمام مسلمانوں سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں، کیا خانہ کعبہ کی اس سے بڑھ کر اور زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں کہ اس عبارت کے پڑھنے سے حج سے نفرت پیدا ہوگی یا حج کرنے کی طرف رغبت پیدا ہوگی؟ کیا شیطان حج کا رادہ کرنے والے کے دل میں یہ خیال نہیں ڈالے گا کہ مودودی صاحب کے بیان کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی بے ایمان ہو کر آؤ۔ اس لیے اگر ایمان بچانا ہے تو گھر میں ہی بیٹھے رہو۔

عجیب

بات یہ ہے کہ مودودی صاحب کو آج تک حج نصیب نہیں ہوا۔ خدا جانے کس کذاب نے مودودی صاحب کو یہ افتراض کئے اور مودودی صاحب نے اس شیطان کی روایت پر اعتماد کر کے خطبات میں تحریر فرمادیا۔

دعا

اے اللہ! مودودی صاحب کو ان خیالات سے توبہ کی توفیق عطا فرماؤ اور انہیں توفیق دے کہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی فرمائیں۔

مودودی صاحب کا عقیدہ کہ رسول اللہ ﷺ نے ملکہ کے مراقب علیہ
کرتے تھے (معاذ اللہ)

پہلے قرآن مجید اور حدیث شریف سے حضور انور علیہ السلام کے مراقب علیہ

عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مودودی صاحب کی کتابوں سے ثابت کر دوں گا کہ آپ ملٹیپل گلط باتیں فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جب ایک شخص کسی سے کہتا ہے کہ تم گلط کہتے ہو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔

حضرت انور ملٹیپل کے متعلق قرآن مجید کے اعلانات

۱۔ آپ ملٹیپل سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں۔ (سورہ الانبیاء، رکوع ۷، پارہ ۷)

۲۔ حضور انور ملٹیپل کو سارے جہاں کی طرف رسول بناؤ کر بھیجا گیا ہے۔ (سورہ الاعراف، رکوع ۲۰، پ ۹)

۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر رحمت کا نزول رسول اللہ ملٹیپل کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ (سورہ الاعراف، رکوع ۱۹، پارہ ۹)

۴۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی نجات رسول اللہ ملٹیپل کی حمایت پر مشروط کی گئی ہے۔ (سورہ الاعراف، رکوع ۱۹، پ ۹)

۵۔ رسول اللہ ملٹیپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے تابعداروں میں سے ہیں۔ (سورہ آل عمران، رکوع ۷، پارہ ۳)

۶۔ نبی مسلمانوں کے معاملہ میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کا حقدار ہے۔ (سورہ الاحزاب، رکوع ۶، پ ۲۲)

۷۔ آپ ملٹیپل (قیامت کے دن اپنی امت پر) گواہ ہوں گے۔ (سورہ الاحزاب، رکوع ۶، پارہ ۵)

۸۔ آپ ملٹیپل (صحیح راستہ پر چلنے والوں کو) خوشخبری سنانے والے ہیں۔ (سورہ الاحزاب، رکوع ۶، پارہ ۵)

- ۹۔ آپ ﷺ (غلط راست پر چلنے والوں کو) ڈرانے والے ہیں۔ (سورہ الاحزاب، رکوع ۶، پارہ ۲۲)
- ۱۰۔ آپ ﷺ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاں والے ہیں۔ (سورہ الاحزاب، رکوع ۶، پارہ ۲۲)
- ۱۱۔ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بنایا ہے۔ (سورہ الاحزاب، رکوع ۶، پارہ ۲۲)
- ۱۲۔ آپ ﷺ سلسلہ مقدسہ انبیاء علیہم السلام کو ختم کرنے والے ہیں۔ (سورہ الاحزاب، رکوع ۵، پارہ ۲۲)

مشتبہ نمونہ از خروارے

قرآن مجید میں سے آپ کے مراتب عالیہ کا تذکرہ جو کیا گیا ہے، وہ ایسا ہی ہے جس طرح ایک خوار میں سے ایک مٹھی بھر کر دکھادی جائے۔ ورنہ اگر آپ ﷺ کے تمام کملات کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔

حدیث شریف میں ذکر خیر

- حضور انور ﷺ کے ارشادات (جنہیں مسلمان وحی الی خیال کرتے ہیں) سے حضور کے مراتب عالیہ کا تجربہ کا پچھ نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔
- ۱۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے، کہا، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: ”تمام انبیاء علیہم السلام میں سے تابعداروں کے لحاظ سے میں سب سے زیادہ ہوں گا اور میں ہی سب سے پہلے بہشت کا دروازہ (کھونے کے لیے) کھنکھاؤں گا۔“ (رواه مسلم)
- ۲۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے دن میں بہشت کے دروازہ پر آؤں گا۔ پھر
کھولنے کے لیے کہوں گا۔ پھر خازن (جنت کا دربان) کہے گا تم کون
ہو؟ پھر میں کہوں گا محمد ﷺ (پھر کہے گا آپ ہی کے متعلق مجھے
حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں۔“ (رواه
مسلم)

۳- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ کمار رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے، جس طرح ایک
 محل ہو، جس کی تعمیر بڑی اعلیٰ ہو۔ ایک جگہ اینٹ کی اس میں خالی
 رہ گئی۔ دیکھنے والے اس کی سیر کرتے ہیں۔ اس کی تعمیر کی
 خوبصورتی سے تعجب کرتے ہیں مگر وہ ایک اینٹ کی جگہ (جو خالی
 رہی ہوئی ہو) پھر میں نے اس اینٹ کی جگہ کو بھر دیا ہے۔ میرے
 ذریعہ سے اس عمارت کی تکمیل ہو گئی ہے اور میرے سب سے
 انبیاء علیهم السلام کا..... سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ایک روایت میں
 ہے، ”میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔“ (تفقیہ علیہ)

۴- حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:
 ”مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔

(۱) جھے جو امع الکلم دیے گئے ہیں۔ میری (دشمنوں پر) (۲) رعب
 ڈالنے میں مددی گئی ہے اور (۳) میرے لیے غشیتیں حلال کی گئی
 ہیں اور (۴) میرے لیے ساری زمین سجدہ گاہ اور طهارت حاصل
 کرنے کا ذریعہ بنادی گئی ہے اور (۵) میں تمام خلوقات کی طرف
 رسول بناؤ کر بھیجا گیا ہوں اور (۶) میرے ذریعہ سے انبیاء کا سلسلہ
 ختم کر دیا گیا ہے۔“ (رواه مسلم)

بے نظیر

مذکورہ الصدور احادیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء علیهم السلام میں سے اپنے خصوصی محسن اور خوبیوں کے لحاظ سے سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک بے نظیر مقدس ہستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ انعامات نصیب ہوئے ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے۔ بقول شعفی

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

مودودی صاحب کے معتقدات

یہ کاناوجال وغیرہ تواریخیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور ان چیزوں کے تلاش کرنے کی نہیں کوئی ضرورت بھی نہیں۔ عوام میں اس قسم کی جواباتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ (منقول از ”ترجمان القرآن“، ”رمضان“، شوال ۱۴۲۳ھ، جلد ۷، عدد ۳)

۱۔ ”یہ کاناوجال وغیرہ تواریخیں ہیں۔“ افسانہ وہ ہوتا ہے جو غیر معترغیر محقق چیزوں کی زبانوں پر گشت کرنے لگ جائے۔ دجال کے واقعہ کو افسانہ کہنا، مودودی صاحب کی حدیث شریف سے ناداقیت اور جمالت کا ثبوت ملتا ہے۔ دجال کی حدیث، صحیح بناری شریف میں آنھ مرتبہ آئی ہے اور صحیح مسلم شریف میں سترہ مرتبہ آئی ہے۔

۲۔ ”شرعی حیثیت نہیں ہے“ دجال کی احادیث علمات قرب قیامت میں سے ہیں۔ یہ وحی فہمی اور وحی غیر معلوم سے ثابت ہیں اور پہنچیں مرتبہ

احادیث صحیحہ میں نہ کورہیں۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیا کوئی عالم حدیث یہ بات منہ سے نکال سکتا ہے؟

-۳۔ ”ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں نہیں“ اگر مودودی صاحب یہ فرماتے کہ اگرچہ جال کا ذکر بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے مگر ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے تو بھی ایک بات ہوتی۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں ان کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ چیز کوئی محقق توبہ نہیں۔ البتہ تلاش کرنے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ اس قسم کے خیال کاظماً ہر کرنا مودودی صاحب کی جمالت کا ثبوت ہے۔

-۴۔ ”عوام میں اس قسم کی جو باقی میں مشہور ہوں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے۔“

یہ فقرے بھی مودودی صاحب کی جمالت کا پتہ دے رہے ہیں۔ کیا یہ چیزیں احادیث جو جال کے متعلق ہیں، وہ عوام میں مشہور ہیں یا خواص امت کا ساز ہے تیرہ سو سال سے وظیفہ چلی آرہی ہیں۔ مودودی صاحب ان احادیث کی ذمہ داری اپنے اور نہیں لیتے ورنہ تمام اہل سنت و الجماعت مسلمانوں کے صحیح ہونے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو مسلمان اپنے نصاب تعلیم دینیات میں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کو لازمی طور پر رکھے ہوئے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔

-۵۔ ”ان میں سے کوئی اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔“

ماشاء اللہ! کیا غیر مددارانہ اعلان فرمائے ہیں مودودی صاحب آپ کے نئے پیش کردہ اسلام کو دجال کی احادیث کے غلط کرنے سے نقصان نہیں پہنچتا ہو گا۔ ہم اہل السنۃ والجماعۃ ساڑھے تیرہ سو سال سے جس اسلام کو آج تک لیے آرہے ہیں اگر دجال والی احادیث کو بقول آپ کے غلط قرار دے دیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ ﷺ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور فقط یہی نہیں بلکہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو جھوٹا نتایپے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے:

”کہ رسول اللہ ﷺ اپنی طرف سے نہیں فرمایا کرتے بلکہ میری طرف سے آپ ﷺ کے دل پر القا ہوتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں۔“

اب بتلائے! کیا دجال کی احادیث کو غلط کرنے سے سارا دین اسلام تباہ اور بر باد نہ ہو جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ دین الہی سدا زندہ رہے گا اور اسے تسلیم نہ کرنے والے اس کا خمیازہ خود بھگلت لیں گے۔

رسول اللہ ﷺ پر کذب بیانی کا بہتان

”حضرور ﷺ کو اپنے زمانہ میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ ﷺ کے عمد میں ہی ظاہر ہو جائے۔ یا آپ ﷺ کے بعد کسی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو لیکن ایسا سڑھے تیرہ سو برس تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور ﷺ کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا۔ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا صحیح فہم کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ لکھنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں

ہے۔” (ماخوازاز ”ترجمان القرآن“، ربیع الاول ۱۳۶۵ھ، جلد ۲۸، ص ۳۱)

قابل غور فقرے

چونکہ مجال کے متعلق اس سے پہلی حدیث میں مودودی صاحب کے غلط خیالات کی کافی تردید ہو چکی ہے اس لیے اب اس حوالہ میں جو قابل غور فقرے ہیں۔ اس کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔

۱۔ کیا سائز ہے تیرہ سو برسوں کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور ﷺ کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا۔

مودودی صاحب اور ان کے متبوعین اور دوسرے مسلمانوں سے انصاف کے نام پر اپیل کرتا ہوں کیا اس عبارت کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس معاملہ میں جھوٹ بولا تھا۔

دعا

اے اللہ! مودودی صاحب اور ان کے متبوعین کو ہدایت عطا فرماء اور اس گمراہی کے گڑھے سے انہیں نکال دے۔ انہیں خود ساختہ اسلام سے بچا اور محمدی ﷺ اسلام کی طرف پھر آنے کی توفیق عطا فرماء۔

۲۔ اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ لکھنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں ہے۔

ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ بھی امت کو پڑھایا سکھایا ہے، وہ سب وحی ہے۔ اس میں کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی۔ بکے ذیال میں نہ ابا نے رسول اللہ ﷺ کی کتنی باتیں غلط ہوں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک کیونکہ مودودی صاحب فرمایا

رہے ہیں "اس قسم کے معاملات میں"
 وَمَا عَلِيَّنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ
 مُسْتَقِيمٍ

مودودی صاحب کی عبارات میں اللہ تعالیٰ کی توبہ

مودودی صاحب کی کتابوں میں جب ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جن کے تسلیم کر لینے سے اسلام محمدی ﷺ کی جزیں یقیناً کبٹ جاتی ہیں۔ جب جڑی نہ رہی تو درخت کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ پھر حیران ہوتا ہوں کہ مودودی صاحب نے یہ الفاظ خدا جانے کس مدھوشی میں لکھے ہیں۔ شاید قلم لکھ رہا ہو اور دماغ میں نیند کا غلبہ ہو۔ مودودی صاحب کو یہ پتہ ہی نہ چلا ہو کہ قلم نے کیا لکھا ہے۔

خدا کی قسم

مجھے مودودی صاحب یا ان کے متبوعین سے کوئی ذاتی عناد یا تعصیب ہرگز نہیں ہے۔ محض خیرخواہی کے طور پر یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ ﷺ خوش ہو جائیں اور مودودی صاحب اور ان کے متبوعین کو اللہ تعالیٰ اس غلط راستے سے ہٹالے اور دوسرے مسلمان اس دام میں پہنچنے سے بچ جائیں۔

خلاصہ درخواست

میں مودودی صاحب اور ان کے متبوعین سے مخلاصہ درخواست کرتا ہوں کہ جنبہ داری سے دل کوپاک کر کے میری معروضات پر غور کریں اور خدا تعالیٰ

سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب بھٹکے ہوؤں کو پھر راہ راست پر لے آئے۔ آمین یا
اللہ العالمین۔

اعلان اللہ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰۤ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰۤ

(سورہ الجم، رکوع ۱، پ ۲۷)

ترجمہ: اور نہ اپنی خواہش سے کچھ کتابے یہ توحی ہے جو
اس پر آتی ہے۔"

مفسرین قرآن کی شہادتیں (تفسیر کبیر)

رسول اللہ ﷺ کے ارشادات و حی الی ہوتے ہیں

وَمَا يَنْطِقُ أَيُّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَنِ الْهَوَىٰۤ۝ أَيُّ عَنْ هَوَىٰ نَفْسِهِ وَرَايَهُۤ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ يُوحَىٰ إِلَيْهِ

ترجمہ: "اور رسول اللہ ﷺ اپنی خواہش سے نہیں
فرماتے اور اپنی رائے سے نہیں فرماتے۔ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ
اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ (ﷺ) کی طرف وحی کی
جاتی ہے۔"

تفسیر ابن کثیر

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِذْ مَا يَقُولُ قَوْلًا عَنْ هَوَىٰ
وَغَرْضُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْدَهُ يُؤْخَذُ إِذْ أَنْمَا يَقُولُ مَا أَمْرَ
بِهِ يَبْلُغُهُ إِلَى النَّاسِ كَامِلًا مَرْفُورًا مِنْ غَيْرِ زِيادة
وَلَا نَقْصَانٍ

ترجمہ: "آپ کوئی بات بھی اپنی خواہش یا اپنی غرض سے
نہیں فرماتے سوائے اس کے نہیں آپ وہی فرماتے ہیں کہ جس کا
لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ پورے کا پورا اپنچادریتے ہیں
جس میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں کی جاتی۔"

تفسیر خازن

ہر معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کا اتباع ضروری ہے

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوَا وَهَذَا نَازِلٌ فِي أَمْوَالِ
الْفِي وَهُوَ عَامٌ فِي كُلِّ مَا أَمْرَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ نَهَىٰ
عَنْهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ مِنْ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَوْ
مُسْتَحِبٍ أَوْ نَهَىٰ عَنْ حَرَمٍ

ترجمہ: "لور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ آیت
مبارکہ غنیمت کے مالوں میں نازل شدہ ہے۔ حالانکہ وہ عام ہے جس
چیز کا نبی ﷺ نے حکم فرمایا ہے یا جس چیز سے منع کیا ہے خواہ وہ
قول ہو یا عمل ہو، واجب ہو یا مستحب ہو یا کسی حرام چیز سے منع فرمایا
ہو۔"

تینوں تفاسیر

کی عبارتوں کا حاصل یہ نکلا کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات وحی الٰہی ہوتے ہیں۔ لہذا انہیں فرمان الٰہی سمجھ کر تسليم کر لینا چاہیے۔

مودودی صاحب کا اعلان کہ حضور انور ﷺ کا ہر فرمان وحی الٰہی نہیں ہوتا

اللہ تعالیٰ کا فرمان:

”کہ حضور ﷺ کا ہر فرمان وحی الٰہی ہوتا ہے“

اور مودودی صاحب کا اعلان:

”کہ آپ (ﷺ) کا ہر فرمان وحی الٰہی نہیں ہوتا۔“

کیا مودودی صاحب کے اس اعلان میں اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے؟

شادوت

عن انس "قال قال رسول الله ﷺ ما من نبی
الا قد انذر امته الا عور الکذاب الا انه اعور و ان
ربکم ليس ليس باعور مكتوب بن تينيه "ك ،
ف ، ر " (متفق عليه)

ترجمہ: ”حضرت انس رض سے روایت ہے۔ کما رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ذرا یا ہے۔ خبردار!
وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے

درمیان کف رکھا ہوا ہو گا..... (اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا)

حضرت الی ہر یہ ﴿الْقَوْمُونَ﴾ سے روایت ہے۔ کما رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خبردار! میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ بے شک وہ کنانہ ہے اور وہ اپنے ساتھ بہشت اور دوزخ کا نمونہ لائے گا جسے وہ بہشت کہے گا وہ (اصل میں) دوزخ ہو گا اور بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔“

حاصل

یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نہایت وثوق سے اطلاع دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دجال کے متعلق یہ اطلاع یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ نے حاصل کی ہے اور اپنی امت کو پورے وثوق سے اطلاع دی ہے۔

مودودی صاحب کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کو جھٹلانا

۱۔ ”یہ کنا دجال وغیرہ تو انسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔“
(ماخوذہ از ”ترجمان القرآن“ ص ۱۸۶)

شوال (۱۳۶۲)

۲۔ ”حضور ﷺ کو اپنے زمانہ میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ ﷺ

کے عمدہ میں ظاہر ہو جائے یا آپ ﷺ کے بعد کسی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو لیکن کیا ساڑھے تیرہ سورس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور ﷺ کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا۔ (ماخوازہ "ترجمان القرآن" ص ۲۷۲، جلد ۲۸، عدد ۳ بابت ربیع الاول ۱۴۶۵ھ)

النصاف کا واسطہ

دے کر مودودی صاحب اور ان کے متبیعین اور دوسرے مسلمانوں سے اپل کرتا ہوں کہ کیا واقعی اس کا نے دجال کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ایک بات رسول اللہ ﷺ مرتباً و ثوق سے فرمائیں اور مودودی صاحب فرمادیں کہ "یہ ایک افسانہ ہے اور اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔"

اور کیا یہ کہنا "حضور ﷺ کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا" جناب رسول اللہ ﷺ کی توبین نہیں ہے؟ اور جب نوح علیہ السلام کے وقت سے جوبات چلی آ رہی ہے اس کی اطلاع دینا یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے سوانحیں ہو سکتی اور ایسی بات کو غلط کہنا جو اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تلقین فرمائی ہو۔
النصاف سے کہتے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی توبین نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔

عین اسلام اور اصلی اسلام

مودودی صاحب کے اپنے لکھے ہوئے ذکر کا عکس جماعت اسلامی کے اخبار "تنیم" میں ۲۲ جمادی الاول ۱۴۳۷ھ مطابق ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء کے پلے صفحہ پر چھپا ہے جس میں تحریر فرماتے ہیں:

"جس چیز کو ہم لے کر اٹھ رہے ہیں، وہ عین اسلام اور اصلی اسلام ہے۔"

انصار کی اپیل

مودودی صاحب اور ان کے تبعین سے الصاف کی اپیل کرتا ہوں اور دوسرے مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا عین اسلام اور اصلی اسلام وہی ہے جو مودودی صاحب پیش کر رہے ہیں؟ جس میں خانہ کعبہ کی توہین ہے اور رسول اللہ ﷺ جھوٹی باتیں بھی فرمایا کرتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی توہین جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسلام سے مودودی صاحب اور ان کے تبعین کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچائے۔ آمین یا
الله العالمین

دعا

اے اللہ! آپ جس گناہ کے سبب سے مودودی صاحب سے نارانش ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے دین کی صحیح سمجھ ان سے چھین لی ہے، میں صدق دل ہے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ گناہ مودودی صاحب کو معاف فرمادے اور انہیں اور ان کے تبعین کو پھرا پنے سچے دین کا نور بصیرت ان کے سینے میں ذال دے۔

انک مجیب الدعوت سمیع الدعا

دربار نبوی ﷺ سے خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعظیم

اور مودودی صاحب کی طرف سے توہین

پہلے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین تحریر کو ان کی بلند پایہ شخصیت کا علم ہو جائے اور تاکہ مسلمانوں کے عوام

(خواص تو پہلے ہی جانتے ہیں) کو اس بات کا علم ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ کے دربار میں وہ کس قدر مقبول اور محبوب تھے۔ اور اب چودھویں صدی میں جو شخص ان پر جرح کرنے لگے کیا اس جرح سے رسول اللہ ﷺ کی دل آزاری نہیں ہو گئی اور کیا ان پر جرح کرنے سے یہ ثابت نہیں ہو گا کہ جس شخصیت کی حضور ﷺ نے تعریف فرمائی تھی، وہ دور قابل تعریف نہیں تھا بلکہ قابل نفرت اور قابل توہین تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مالی قربانی اور حضور انور ﷺ سے نجات کا

تمغہ

حضرت عبد الرحمن بن خبابؓ سے روایت ہے کہا کہ میں نبی ﷺ کے حضور میں حاضر ہو اور:

”آپ ﷺ جیش العزة (غزوہ تبوک) کے متعلق ترغیب دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ذمے اللہ کی راہ میں سو اونٹ ان کی جھلوک اور پالانوں سمیت ہیں۔ پھر آپ نے (دوبارہ) ترغیب دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے۔ پھر عرض کی میرے ذمے دو سو اونٹ ان کی جھلوک اور پالانوں سمیت ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے تمیری دفعہ رغبت دلائی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے پھر عرض کی میرے ذمے اللہ کی راہ میں تین سو اونٹ ان کی جھلوک اور پالانوں سمیت ہیں پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ منبر سے اترتے ہوئے فرمائے تھے ”کہ عثمان پر کوئی الزام نہیں ہو گا جو بھی اس کے بعد کرے۔“

(رواه الترمذی)

نکتہ چینی

آگے پل کر آپ پر واضح ہو جائے گا کہ مودودی صاحب ایسے ندائے اسلام اور مقبول دربار سردار دوجمال ملٹی ہائیلے پر نکتہ چینی کریں گے۔ سبحان اللہ! کمال حضرت عثمان اور کمال مودودی صاحب۔ رسول اللہ ملٹی ہائیلے کے مقبول اور محبوب صحابہ کرام پر نکتہ چینی کر کے مسلمانوں کو اپنے واجب الاحترام بزرگوں سے بد ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ان کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔

سخت افسوس

مجھے سخت افسوس ہے کہ دین محمدی (ملٹی ہائیلے) میں فتنہ ڈالنے والی تحریکیں عموماً میرے صوبہ پنجاب سے اٹھتی ہیں اور پنجاب میں مسلمانوں کا وہ عضرو شتر بے مدار کی طرح ہے، وہ اپنے اسلاف کے دین سے دست بردار ہو کر نئے فتنے کا علمبردار ہو جاتا ہے اور اپنے سابقہ دوستوں، خیر خواہوں سے کٹ کر نئے فتنہ کی ہوئی کھیلنے لگ جاتا ہے۔ **إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**

حضرت عبدالرحمن اللطیعی بن سمرہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان "اپنی آستین میں ایک ہزار بنار نبی کریم ملٹی ہائیلے کے پاس لائے جبکہ آپ جیش العرش (جنگ تبوک) کی تیاری فرمائے تھے۔ پھر انہیں آپ ملٹی ہائیلے کی جھوٹی میں ڈال دیا۔ پھر میں نے رسول اللہ ملٹی ہائیلے کو دیکھا۔ ان دیناروں کو اپنی جھوٹی میں ہلا رہے تھے اور فرمائے تھے "آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی"۔

غور کرو

برادران اسلام! غور کرو دربار رسالت میں جس واجب الاحترام ہستی کی یہ
قدرو منزالت ہے، آگے چل کر آپ دیکھ لیں گے کہ مودودی صاحب ان کی توہین
کرتے ہیں۔

دعا

اے اللہ! مودودی صاحب کو ہدایت عطا فرم۔ انہیں اس گمراہی کے گھر سے
سے نکال جس میں تیری نار انٹکی کے باعث وہ جاگرے ہیں۔

خدا تعالیٰ کی نار انٹکی کا سبب

میں مودودی صاحب کی خدمت میں شفیقانہ نقطہ نگاہ سے عرض کرتا ہوں
کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ آپ سے نار ارض ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا ہوا ہے:

من عادلی ولیا فقد اذنته بالحرب

ترجمہ: ”جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا تو

میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔“

ایک نیس ہزار بھاکی توہین

مودودی صاحب! آپ نے اللہ کے ہزار بھاکی مقبول بندوں کی توہین اور بے
ابی کی ہے۔ کیا آپ نے ساڑھے تیرہ سو سال کے تمام محدثین، تمام مفسرین،
تمام مجددین حتیٰ کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ ﷺ تک کی توہین نہیں کی۔

انتنے بڑے بڑے مقبولین بارگاہ کی توہین کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی جرم نہیں ہے کیا رسول اللہ ﷺ کی توہین آپ نے نہیں کی؟ مودودی صاحب ان حرکات سے توبہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا سمجھے کہ آپ کی توبہ قبول فرمائے اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔

تحریر کی توسعی کوئی کمال نہیں

بھولے بھالے مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ مودودی کی تحریر میں اس قدر وسعت ہے کہ علمائے دین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

برادران اسلام!

شیخ پر بست زیادہ دیر تک بول لینا یا چھوٹی سی بات کو پھیلا کر صفحوں کے صفحے بھر دینا یہ کوئی اصلی کمال نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو کفار کو بھی نصیب ہیں۔ آپ کو یہ سائیوں میں ایسے ایسے قابل آدمی میں گے کہ مودودی صاحب ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اصلی کمال ہدایت ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ اس کا بہت برا فضل ہے۔

ہدایت کا معیار

ہدایت کا اصلی معیار یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دین جو قرآن مجید اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق اس وقت سے لے کر آج تک بزرگان دین کی برکت سے علماء اور عملاً چلا آ رہا ہے، اس کی پیروی کرے نہ کہ مودودی صاحب کی طرح اس دین کی دیواریں گرا کر نیادین ایجاد کیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک

حضرت عثمانؑ کا زمانہ خلافت

حضرت سفينة ”سے روایت ہے۔ کہاں نے نبی کرم ملٹیپلیکٹر سے سنائے۔ آپ ملٹیپلیکٹر نے فرمایا: ”خلافت تین سال تک رہے گی۔ اس کے بعد بادشاہی ہو جائے گی۔“

پھر حضرت سفینہؓ نے کما حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے دو سال شمار کرو اور حضرت عمرؓ کی خلافت دس سال تک اور حضرت عثمانؓ کی خلافت بارہ سال تک اور حضرت علیؓ کی خلافت چھ سال تک۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد نے روایت کیا

حاصل

حاصل یہ نکلا کہ رسول اللہ ﷺ نے خلاف علی منہاج النبوة کا زمانہ تیس سال فرمایا ہے۔ اسی زمانہ کے اندر حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ آجاتا ہے۔

ابی عبیدہؓ اور معاذ بن جبلؓ نے روایت ہے۔ وہ جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”یہ (دین کا) معاملہ نبوت اور رحمت کی صورت میں شروع ہوا ہے پھر خلافت اور رحمت ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تشدید پسند بادشاہی ہو جائے گی۔ (انتساب مخصوصاً واه البیهقی فی شعب الایمان) حاصل یہ نکلا کر رحمۃ للعابین علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور رحمت کا تھا اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا زمانہ خلافت اور رحمت کا تھا۔ اسی خلافت

کے زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے خلافت کے زمانہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت اور رحمت کا زمانہ فرمائے ہیں اور آگے چل کر دیکھئے گا کہ مودودی صاحب اسی زمانہ کی سخت توہین کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں اسلام میں کفر داخل ہو گیا تھا۔ نعوذ بالله من ذالک۔

حضرت عثمان بن بشیر حذیفہؓ سے بیان کرتے ہیں۔ کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت نبوت کے طریقہ پر قائم ہو گی۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ پھر تشدید پسند بادشاہی ہو جائے گی۔ (انتہی ملخصاً رواہ احمد و البیهقی)

اس حدیث شریف سے بھی حاصل یہ نکلا کہ دور نبوت کے بعد خلافت کا دور آئے گا اور وہ دور خلافت نبوة کے طریقہ کا کار بند ہو گا۔ آپ کے اس ارشاد سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی تعریف اور تعظیم ثابت ہوتی ہے۔ اب سنئے! مودودی صاحب حضرت عثمانؓ کی ذات کی اور آپ کی خلافت کی توہین کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات اور آپ کے دور خلافت کی توہین

”دور جاہلیت کا حملہ، مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار و سعت کی وجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا اور دوسری طرف حضرت عثمانؓ جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا، ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل التقدیر پیش روؤں کو عطا

ہوئی تھیں۔ اس لیے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا راستہ مل گیا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنا سردے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ (از ”تجدد احیائے دین“ ص ۲۳، مصنفہ مودودی صاحب)

مودودی صاحب کی سابقہ تحریر میں دو چیزیں مذکور ہیں۔ ”پہلی حضرت عثمانؓ“ نظام خلافت کے سنبھالنے کے قابل نہیں تھے۔ یعنی نالائق تھے نعوذ باللہ۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں جاہلیت (مودودی صاحب کی اصطلاح میں جاہلیت سے مراد کفر ہوتی ہے) کو اسلام میں گھس آنے کا راستہ مل گیا یہ اس خلافت عثمانیہ کی توبین نہیں ہے؟ جس کی تعریف کئی حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے آپ سن چکے ہیں۔

عین اسلام اور اصلی اسلام

مودودی صاحب اور ان کے تبعین سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ کیا آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم لے کر اٹھے ہیں ”وہ عین اسلام اور اصلی اسلام“ ہے کیا یہی ”عین اسلام اور اصلی اسلام“ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس شخصیت کی تعریف کریں آپ اس کی توبین کریں اور جس خلافت کے دور کو حضور انور ﷺ دور خلافت اور رحمت فرمائیں آپ یہ فرمائیں کہ اس خلافت اور رحمت کے دور میں اسلام میں کفر داخل ہو گیا تھا۔ کیا آپ کے اس بیان میں رسول اللہ ﷺ کی توبین بلکہ تکذیب نہیں ہے؟ کہ جس دور کی آپ تعریف فرمائے ہیں، اس دور میں تو اسلام میں کفر مل گیا تھا۔

برادران اسلام

کیا ہم مسلمانوں کی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ مودودی صاحب کی ہاں میں ہاں ملائیں اور یہ سمجھ لیں کہ واقعی اصلی کھرا اور سچا اسلام حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد ساڑھے تیرہ سو سال سے ساری دنیا کے مسلمان جس چیز کو اسلام سمجھتے آئے ہیں، وہ اسلام اصلی نہیں بلکہ اس میں کفر کی آمیزش ہے۔

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

مودودی صاحب کے لیے دعا

اے اللہ! تو مودودی صاحب کو ہدایت عطا فرم۔ اس مصنوعی اسلام سے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرم اور جس اسلام کی حفاظت کا تو نے قیامت تک ذمہ لیا ہے، مودودی صاحب کو پھر وہ اپنا اسلام نصیب فرم۔ آمین یا اللہ الْعَلَمِینَ آمین۔

اسلام کے متعلق مودودی صاحب کے غلط تصورات

ایک جلیل القدر صحابی کی توبیہ

- ۱۔ جلیل القدر صحابی سے میری مراد حضرت سعد بن عبادہ النصاری رض تھی تھی۔
- ۲۔ جو انصار کے قبیلہ خزرج کے سردار ہیں۔
- ۳۔ تمام لا ایسوں میں انصار کا جنہاً انہیں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔

- ۴۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔
- ۵۔ جوان انصاری صحابہ کرام میں سے ہیں جو حج کے دنوں میں منی میں پہنچ کر مقام عقبہ پر دوسری مرتبہ بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔
- ۶۔ جوان بارہ اشخاص میں سے ہیں جنہیں جناب سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی طرف سے مدینہ منورہ میں مبلغ اسلام تجویز فرمایا تھا۔
- ۷۔ جو کفار مکہ معتمد کے زرخے میں اکیلے آگئے۔ مار کھاتے رہے مگر اسلام کی لائے سے ایک نقطہ پہنچے نہیں ہے۔ اس کے (بیعت عقبہ ثانیہ) بعد نبی ملّت پیغمبر نے ان میں سے بارہ شخصوں کا انتخاب کیا اور ان کا نام نقیب رکھا اور یہ بھی فرمایا:
- ”کن جس طرح عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام) نے اپنے لیے بارہ شخصوں کو چن لیا تھا، اسی طرح میں تمہیں انتخاب کرتا ہوں تاکہ تم اہل شیرب میں جا کر دین کی اشاعت کرو مکہ والوں میں، میں خود یہ کام کروں گا۔“
- ان کے نام یہ ہیں۔ قبیلہ خزرج کے ۹
- (۱) اسعد بن زرارہ (۲) رافع بن مالک (۳) عبادہ بن صامت (یہ تینوں عقیلی اولیٰ میں بھی تھے) (۴) سعد بن ربع (۵) منذر بن عمرو (۶) عبد اللہ بن عمرو (۷) عبد اللہ بن رواحہ (۸) براء بن معرار (۹) عبد اللہ بن عمرو بن حرام سعد بن عبادہ
قبیلہ اوس کے تینیں:
- (۱) اسید بن حفیر (۲) سعد بن خشم (۳) ابوالیشم بن تیمان۔

قریش کو دون نکلنے کے بعد کچھ بھنک سی معلوم ہوئی۔ وہ اہل شرب کی تلاش میں نکلے لیکن ان کا قافلہ صحیح ہی روانہ ہو چکا تھا۔ قریش نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو وہاں پہلیا۔ منذر تو بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آیا۔ مگر سعد بن عبادہ کو انہوں نے کپڑا لیا۔ اس کی سواری کے اونٹ کا ٹنگ کھول کر اس کی مشکلیں باندھ دیں۔ مکہ میں لا کر اسے مارتے اور اس کے سر کے لبے لبے بالوں کو کھینچتے۔ یہ سعد بن عبادہ وہی ہیں جن کو نبی کریم ﷺ نے ان بارہ اشخاص میں سے ایک نقیب نہ کرایا تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے:

”مکہ جب قریش انہیں زد و کوب کر رہے تھے تو ایک سرخ و سپید شیرس شامل شخص انہیں اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس قوم میں کسی شخص سے مجھے بھالی ہو سکتی ہے تو یہی ہو گا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے منہ پر ٹھانچہ لگایا۔ اس وقت مجھے یقین آگیا کہ ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے امید خیر کی جاسکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے میرے حال پر ترس کھلایا اور کہا کیا قریش کے کسی بھی شخص کے ساتھ تجھے حق ہمسائیگی حاصل نہیں؟ اور کسی سے بھی تیراعمدہ پیان نہیں۔ میں نے کہا ہاں جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ جو عبد مناف کے پوتے ہیں وہ تجارت کے لیے ہمارے ہاں جایا کرتے ہیں اور میں نے بارہاں کی حفاظت کی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر انہی دونوں کے نام کی دہائیے تجھے دینی اور اپنے تعلقات کا اعلان کرنا چاہیے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی شخص ان دونوں کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ خزرخ کا ایک آدمی پڑ رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے کر تمہیں پکار رہا ہے۔ ان دونوں نے پوچھا وہ

کون ہے؟ اس نے بتایا سعد "بن عبادہ۔ وہ بولے ہاں اس کا ہم پر احسان بھی ہے۔ انہوں نے آ کر سعد بن عبادہ کو چھڑا دیا اور یہ ثابت قدم بزرگ یثرب کو سدھار گیا۔" (ماخوذ از "رحمۃ للعلمین")
حصہ اول، ص ۱۰۲، ۱۰۱)

سعد بن عبادہ کے خاندان کی قرآن مجید میں تعریف

"اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں ماس گھر میں (یعنی مدینہ میں) اور ایمان میں ان سے پسلے (یعنی مهاجرین کے آنے سے پسلے مدینہ میں آباد ہیں یعنی انصار) وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو وطن چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور اپنے دل میں شنگی نہیں پاتے اس چیز سے جو مهاجرین کو دی جائے اور ان (مهاجرین) کو اپنی جان سے مقدم رکھتے ہیں۔ اور اگرچہ اپنے اوپر فاقہ ہو اور جو اپنے جی کے لائچ سے بچایا گیا تو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں (سورہ الحشر، رو ۱۴، پارہ ۲۸) حاصل یہ نکلا کہ حضرت سعد "بن عبادہ انصاری اپنے ذاتی کمالات کے علاوہ ان کا خاندان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ القدس میں قابل تحسین اور تعریف ہے جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔

در بار رسالت سے تمام صحابہ کرام کے احترام کا حکم

حضرت عبد اللہ "بن مغفل سے روایت ہے۔ کما رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

"میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ (یعنی ان پر نکتہ چینی نہ کرو) پس جو غرض ان سے محبت

کرے گا تو میری محبت کے باعث ان سے محبت کرے گا اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا تو وہ بھی میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھے گا اور جس شخص نے انہیں تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ پس قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے گا۔ (رواه الترمذی)

حاصل یہ نکلا کہ رسول اللہ ﷺ کے ہر صحابی کا احترام لازمی چیز ہے اور کسی پر بھی نکتہ چینی کرنے سے رسول اللہ ﷺ ناراض ہو جائیں گے اور جس پر رسول اللہ ﷺ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ آگے دیکھئے گا کہ مودودی صاحب حضرت سعد بن عبادہؓ کی کس قدر توہین کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن عبادہؓ کے محاسن کی فہرست

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سات محاسن یعنی خوبیاں اور ان کے کملات اسی مضمون کے ابتداء میں عرض کر چکا ہوں۔ آنکھوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے خاندان انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے وہ اس لحاظ سے بھی قابل تعظیم ہیں۔ نواں حضور انور ﷺ نے اپنے تمام صحابہ کرام کا احترام کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس لحاظ سے بھی حضرت سعد بن عبادہؓ کی تعظیم ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔

ان نو وجہوں تعظیم کے ہوتے ہوئے بھی مودودی صاحب اس جلیل القدر شخصیت کی توہین کرتے ہیں۔ خدا جانے مودودی صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کی توہین اپنی عادت بناتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں اور میرے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مودودی صاحب سے ناراض ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کی توہین بڑی دلیری سے کرتے

ہیں۔

سعد بن عبادہ کی توبہ

”بعض لوگ تھیفہ بنی ساعدة کے معاملہ کو بھی امیدواری کی نظر میں پیش کرتے ہیں اور اس سے اس طرح استدلال فرماتے ہیں کہ گویا وہاں مختلف اشخاص منصب خلافت کے خواہش مند تھے اور ان کے درمیان انتخابی مقابلہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ بحث اس بات پر تھی ہی نہیں کہ امیدوار اشخاص میں سے کس کو منتخب کیا جائے اور کس کو نہ کیا جائے، بلکہ اس بات پر تھی کہ خلیفہ انصار میں سے ہو یا مهاجرین قریش میں سے۔ انصار وہ دلائل دے رہے تھے کہ جن کی بنا پر ان کے نزدیک انصاریوں کا حق مقدم تھا مگر جب حضرت ابو بکر رض نے مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ قریش خلافت کے لیے الحق ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے عرب میں کسی اور کی خلافت کامیاب نہیں ہو سکتی تو انصار نے سرتسلیم خم کر دیا۔ اس پورے گروہ میں صرف حضرت سعد بن عبادہ ”ایک ایسے شخص تھے جن کے اندر امیدواری کی بولپائی جاتی تھی۔“

کیا یہ توبہ نہیں؟

جب مودودی صاحب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اس مجمع میں امیدواری کی بحث ہی نہ تھی بلکہ بحث اس بات پر تھی کہ خلیفہ انصار میں سے ہو یا مهاجرین قریش میں سے۔ پھر مودودی صاحب کا یہ کہنا اس پورے گروہ میں حضرت سعد بن عبادہ رض جیسے جلیل القدر صحابی کی توبہ نہیں ہے اور کمال یہ ہے کہ

مودودی صاحب کو ان کے اندر سے بو آرہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

اپنی عظمت شان اور کمال باطنی کا اعلان

مودودی صاحب نے حضرت سعد بن عبادہ رض کی توبین میں اپنی عظمت شان اور کمال باطنی کا اعلان فرمایا ہے:

”کہ اے مسلمانو تمہارے پیغمبر کے ایک جلیل القدر اور بہت بڑے پایہ کے صحابی کے اندر سے مجھے ان سے پورے سائز ہے تیرہ سو سال بعد پیدا ہونے کے باوجود ان کے اندر سے بو آرہی ہے۔“

خدا جانے کس وحی جدید کے ذریعہ سے مودودی صاحب کو ان کی اندر کی یو کا یقین آگیا اور مودودی صاحب نے اپنی کتاب ”جماعت اسلامی کی انتخاب جدوجہد، اس کے مقاصد اور طریق کار“ کے صفحے ۲۷ پر اس یقینی حاصل شدہ بو کا اعلان فرمایا۔

مودودی صاحب کو کسی ایک حدیث پر یقین نہیں

ماشاء اللہ مودودی صاحب اپنے آپ کو اتنا برا محقق خیال کرتے ہیں کہ زمانہ نبی کشم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج چودھویں صدی تک جن احادیث کو ہر زمانہ میں ہزارہا محدثین پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، جن کی تعداد آج لاکھوں تک پہنچ چکی ہے، ان احادیث کے متعلق مودودی صاحب کی بے اعتمادی ملاحظہ فرمائیے۔ ”ترجمان القرآن“ جلد ۲۸، عدد ۳ مطبوعہ ربیع الاول ۱۴۶۵ھ کے صفحے ۲۷ پر تحریر فرماتے ہیں:

”احادیث چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچتی آئی ہیں۔“

جن سے حد سے حد اگر کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے تو وہ مخفی گمان

صحت ہے نہ کہ علم اليقین"۔

النصاف کی اپیل

مودودی صاحب اور ان کے تبعین سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں کہ لاکھوں محدثین روایت کریں تو مودودی صاحب کو علم اليقین پھر بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ محض گمان صحت حاصل ہوتا ہے تو رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد "بن عبادہ الترمذی" کے اندر کی بوكا ثبوت مودودی صاحب کو کس وحی سے مل گیا کہ اس پر یقین کر کے حضرت سعد بن عبادہ الترمذی پر اندر کی بوكا گولہ پھینک دیا۔

مودودی صاحب اور ان کے حلقة بگوشان

ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا یہی عین اسلام اور اصل اسلام ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابہ کرام سے مسلمانان عالم کو بدظن کیا جائے۔

عین اسلام اور اصل اسلام کا اعلان

مودودی صاحب کا اپنی قلم سے لکھا ہوا خط جماعت اسلامی کے اخبار تنسیم میں چھپا ہوا ہے۔ جو ۲۲ جنوری الاول ۱۳۷۳ھ ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء کو طبع ہوا۔ اس میں مودودی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"جس چیز کو ہم لے کر اٹھ رہے ہیں وہ عین اسلام اور اصل اسلام ہے"۔

اے اللہ بچا

مودودی صاحب ایں آپ کے حق میں صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ! مودودی صاحب کو اس گمراہی کے گڑھے سے نکال۔ انہیں اپنے اس من گھرِ اسلام سے توبہ کی توفیق عطا فرم اور سید المرسلین خاتم النبین علیہ الصلوٰۃ والسلام واللہ اسلام کا عقیدت مند اور عالی ہونے کی توفیق عطا فرم۔ آمین یا اللہ العلیمین۔

اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مسلمانوں کو اس گمراہی سے بچا۔

**اللَّهُمَّ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ**
آمین ثم آمین۔

مودودی صاحب کی طرف سے تمام محدثین اور تمام مفسرین کی توبہ

حدیث شریف میں ہے جو شخص انسانوں (جو اس کے محسن ہوں) کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ (جو بے انتہا احسان کرنے والا ہے) کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی نظر اور عقیدہ میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اتمعین کے بعد جو محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ اور مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ کا درجہ احترام ہے وہ کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں۔

وعدہ اللہ کے ایفا کا ذریعہ

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہوا ہے:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُوْنَ (سورہ الحجر، رکوع نمبر ۱۶، پارہ نمبر ۲۳)

ترجمہ: "ہم نے یہ فصیحت اتاری ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں"۔

اللہ جل شانہ کے اس اعلان حفاظت قرآن کو عملی جامہ پہنانے والے دراصل محدثین اور مفسرین حضرات ہی ہیں۔ الفاظ قرآن مجید کی حفاظت میں اگرچہ حفاظت قرآن کا بھی کافی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے مگر قرآن مجید کا منجانب اللہ معلم ہونے کے لحاظ سے سید المرسلین خاتم الشیخ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات اس کی شرح ہیں۔ محدثین حضرات نے تمام ان ارشادات نبویہ کی اس وقت سے لے کر آج تک حفاظت کی ہے اور ان ارشادات کی حفاظت میں رسول اللہ ﷺ تک پہنچانے والے روایوں کی اس قدر چھان بین کی ہے کہ اگر ذرا برابر بھی کسی کے حافظہ میں نقص دیکھا تو اس کی حدیث کو ضعیف کر دیا۔ ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ رسول اللہ ﷺ تک پہنچنے کے بعد اسے ضعیف کہا جاتا ہے نہیں بلکہ اس کے حدیث رسول ہونے میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ روایوں کے اس چھان بین کے فن کو فن جرح و تدعیل کہا جاتا ہے۔

اور روایوں کے ناموں کی تفصیل معلوم کرنا، اور کس کس زمانہ میں پیدا ہوئے اور کس کس حدیث سے پڑھے اور ان سے آگے کس کس حدیث نے پڑھا، اس فن کو فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں فن فقط رسول اللہ ﷺ کی امت کے پاس پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی اور کسی قوم کے پاس نہیں۔ اسی لیے سوائے سید المرسلین خاتم الشیخ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اور کسی نبی کی امت کے پاس ان کے پیغمبروں کے ارشادات محفوظ نہیں ہیں۔ جو ایک طرح آسمانی کتاب کی شرح ہوتے ہیں چونکہ وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں اس لیے ان کی شرح کیسے محفوظ رہ سکتی تھی۔

عمریں صرف کیس

محمد شیش حضرات پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے علم حدیث کی اشاعت میں اپنی عمریں صرف کیس تاکہ فتنہ حدیث ہر دور سے منتقل ہو کر دوسرا دوسرے دور میں پہنچ جائے۔ چنانچہ آج ہر مستند عالم جو کسی مستند عالم سے پڑھا ہوا ہو، وہ ہر ایک حدیث جو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرے گا، اس کی سند بیان کر سکتا ہے۔ خصوصاً اپنے سلسلہ عالیہ دیوبند کے متعلق یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دارالعلوم کا پڑھا ہوا ہر عالم اس سلسلہ کو بنانے کا اہل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سلسلہ عالیہ کے اسانید کامطبوعہ مجموعہ موجود ہے۔

علی ہذا القياس

مفسرین حضرات نے شرح قرآن مجید میں جو فقرہ رسول اللہ ﷺ یا صحابہ کرام یا ان کے تلامذہ تابعین اور ان کے تلامذہ تابع تابعین سے مقول ہے، اس کو ضبط تحریر میں لا کر اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور میں رسول اللہ ﷺ کی امت کو پہنچاتے رہے ہیں۔ ان حضرات کی سماں کی برکت سے خیر القرون سے نقل شدہ تفسیری جملے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر یہ حضرات مفسرین اپنی عمریں اس فن تفسیر کی نشر و اشاعت میں صرف نہ کرتے تو آج چودھویں صدی میں مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کا اتباع کرنے والے مسلمانوں کو اصلی اور کھرے دین کا پتہ کیے گے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مفسرین حضرات کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی برکت سے آج ہم قرآن مجید کا صحیح مفہوم (جو مراد اللہ ہے) سمجھ رہے ہیں۔

علم حدیث کی اہمیت

امت نے شریعت کو حضور انور ﷺ سے کس طرح اخذ کیا؟ اس کو اخذ کرنے کی دو صورتیں ہیں:

”ایک یہ کہ وہ احکام الفاظ کے ذریعے سے منقول ہوں۔
دوسری یہ کہ کوئی صرحاً منقول نہ ہو۔ صحابہ و تابعین یا علماء کا استنباط یا اجتہاد ہو۔

پہلی قسم کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو وہ الفاظ تواتر کے ساتھ منقول ہوں گے اور یا تواتر روایت کے ذریعہ تو منقول نہیں ہوں گے۔ تواتر لفظی کی مثال قرآن مجید ہے اور چند احادیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ مثلاً محدثین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار والی حدیث متواتر ہے۔ متواتر معنوی کی مثال طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح اور بیع کے وہ مسائل ہیں جن پر تمام علمائے امت کا اتفاق ہے اور کسی فرقہ کے لوگوں نے بھی ان کی صحت سے انکار نہیں کیا۔

غزوات النبی ﷺ کے اکثر واقعات اور متعلقہ احکام بھی اسی قبیل سے ہیں“ (منقول از جمیع اللہ البالغہ باب کیفیتہ تلقی الاممۃ الشرع من النبی ﷺ)

حاصل

حضرت شاہ صاحب ”کی عبارت کا حاصل یہ نکا کہ رسول اللہ ﷺ کی بعض احادیث تواتر لفظی سے ثابت ہیں۔ یعنی نبوت میں ان کا درجہ بالکل قرآن مجید کے برابر ہے اور بعض تواتر معنی سے ثابت ہیں۔ تواتر معنی سے ثابت

ہونے والی احادیث کے ذریعہ ہی سے شریعت کا بست سارا حصہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً طمارت کے متعلقہ مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح اور بیع اور رسول اللہ ﷺ کی جنگوں کے اکثر واقعات اور ان کے متعلق احکام اور سب چیزوں کو جو ان احادیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی امت کے سب فرقوں کے علماء انہیں صحیح مانتے ہیں اور سب کو یقین ہے کہ یہ احادیث رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں اور صحیح ہیں۔

ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس پر یقین کیا جائے

”احادیث چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچتی آئی ہیں جن سے حد سے حد اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ محض گمان صحت ہے نہ کہ علم الیقین۔“ (ماخوذ از ”ترجمان القرآن“ مودودی صاحب، جلد ۲۸، عدد ۳، مطبوعہ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ)

اس اعلان کا حاصل یہ نکلا کہ مودودی صاحب کی نظر میں رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس کے صحیح ہونے کا یقین کیا جاسکے۔ مودودی صاحب نے علم حدیث پر بڑا رحم فرمایا کہ ”اگر“، ”ماشاء اللہ“، ”اگر“ کے لفظ پر غور فرمائیے کہ ہے تو یہ بھی نہیں۔ لیکن اگر کچھ کسی حدیث کے متعلق رائے قائم کی جائے تو ”محض“ گمان صحت ہے۔

مودودی صاحب کی بدگمانی جمالت پر مبنی ہے

مودودی صاحب اگر آپ نے کسی محقق محدث سے علم حدیث پڑھا ہو تا تو رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی آج یہ توہین نہ کرتے۔ کیا موجودہ دور میں امام الحدیثین اسوة الصالحین رئیس الجاہلین (فی مقابلۃ الافرنجی) شیخ الحدیث دارالعلوم

دیوبند حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدفنی شیخ العرب والجم کو آپ کی طرح کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہے اور ہر سال کے دورہ حدیث میں جمال چار چار سو علماء کرام ان کے سامنے زانوئے ادب ہے کرتے رہے ہیں اور تمیں چالس سال تک دورہ حدیث پڑھاتے رہے ہیں کیا وہ ان احادیث صحابہ کو محض اس گمان پر پڑھاتے آئے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہوں۔

اور کیا مولانا مدفنی سے پہلے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور ان سے پہلے حضرت شیخ الحند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے قاسم العلوم والخیرات جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناؤتوی محض اسی گمان پر علم حدیث کی نشر و اشاعت کرتے رہے ہیں کہ شاید یہ حدیثیں صحیح ہوں۔ آپ کے خیال کے مطابق انہیں کسی حدیث پر یقین نہیں تھا۔ نقطہ گمان صحت پر ان حضرات نے اس علم کی اشاعت پر عمریں صرف کرداری تھیں۔

محمد شین حضرات کی توهین

ابھی سابقہ سطور میں مودودی صاحب کا جو خیال عرض کرچکا ہوں کیا اس میں رسول اللہ ﷺ کی امت کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں محمد شین کی توهین نہیں ہے کہ انہوں نے ایک وہی اور غیر محقق چیزیں اپنی عمریں ضائع کیں۔

مودودی صاحب! آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی احادیث پر یقین کی نعمت نصیب نہیں فرمائی۔ ہمارا تو یقین ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنی احادیث متصل اور مرفوع ہیں سب یقیناً صحیح ہیں۔

ان کے صحیح ہونے کی شادت

اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان
جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح
بالقطع و انهم متواتران الى مصنفيهما و انه
كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير
سبيل المؤمنين (ججۃ اللہ البالغہ باب طبقات کتب الحدیث)
ترجمہ: "صحیحین کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی
متصل الانصار مرفع حدیثیں ان میں موجود ہیں وہ سب یقیناً صحیح
ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابیں ان کے مصنفین سے
تو اتر کے ساتھ منقول ہیں۔ کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں اور
اس پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ جو شخص بھی ان کتابوں کی توبہن
کرے گا تو وہ بدعتی ہے اور جو راستہ اس نے اختیار کر رکھا ہے، وہ
مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے۔"

مودودی صاحب اذرا سوچئے

مودودی صاحب ججۃ اللہ البالغہ کی سابقہ عبارت کو غور سے پڑھئے اور زدا
سوچئے کہ آپ کے متعلق محدثین حضرات کیا فیصلہ صادر فرمائے ہیں۔ آپ
کے نزدیک جب کسی حدیث کے بھی صحیح ہونے کا یقین نہیں ہے تو بخاری
شریف اور صحیح مسلم شریف کی احادیث صحیح بھی اس زمین آئیں گی اور جو ان
کتابوں کی احادیث پر بھی جرح کرے ان کے نزدیک وہ شخص مسلمانوں کے
راستہ پر نہیں ہے۔

حلقة بگوشان اسلام مودودیت غالباً یہ فرمائیں گے کہ بھائی اگر ایک جگہ مودودی صاحب نے یہ الفاظ فرمائے ہیں جن پر آپ کو اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ فلاں فلاں جگہ پر مودودی صاحب نے علم حدیث کی بڑی تعریف کی ہے۔ آپ خواہ مخواہ ایک بات کو لے بیٹھتے ہیں۔ ان کی دوسری جگہ کی تحریر بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے:

”کہ مودودی صاحب کی عادت ہے کہ ایک چیز کے محاسن بیان کرتے کرتے ایک ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کا دل جائے اور اس چیز کی ساری خوبیاں ملیاں ہو جائیں۔“

چنانچہ میں نے سب سے پہلے نہ رایں مودودی صاحب کے متعلق ایک مثال دی تھی۔ کہ جس طرح ایک شخص کسی کے خاندان کی بڑی تعریف کرے کہ آپ کا خاندان بہت ہی شریف ہے اور آپ کے والد صاحب بزرگ آدمی ہیں اور آپ کے والد اصحاب توانشاء اللہ قابل زیارت ہیں۔ آخر میں یہ کہہ دنے کہ میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ آپ حرامزادے ہیں۔“

تو کیا اس آخری فقرہ سے اس شخص کا دل نہیں جل جائے گا۔ جناب مودودی صاحب کی یہی عادت ہے اور ان کے حلقة بگوشان مودودیت کا یہی شیوه ہے۔

ہاتھی کے دانت

مودودی صاحب کی جماعت کے حلقة بگوشان میں سے بعض حضرات درس حدیث بھی دیتے ہیں تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ ہم تو حدیث شریف کے خلام ہیں۔ ہم خود درس حدیث دیتے ہیں اور مولوی خواہ مخواہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ برادر ان عزیزاً جب آپ کے پیرو مرشد بانی اسلام جدید کی تحقیق

میں ایک حدیث پر بھی یقین نہیں کیا جاسکتا جیسے اور حوالہ دے چکا ہوں تو پھر کیا آپ پر یہ مثال چپاں نہیں ہو سکتی کہ ”ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور“

مودودیت کے متعلق منکر حدیث کی رائے

کیا غلام احمد پرویز منکر حدیث مودودیوں کے متعلق اپنے اخبار ”طلوع اسلام“ میں یہ نہیں لکھ چکا:

”کہ میری طرح تم بھی تو منکر حدیث ہو تو پھر مجھے کیوں برا بھلا کتے ہو؟“

تحریر ملاحظہ ہو:

”حدیث کے متعلق بعینہ یہی مسلم (جو مودودی صاحب کا ہے) طلوع اسلام کا ہے۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ کسی ایک فرد کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ جس بات کو اس کی نگہ جو ہر شناس سنت رسول قرار دے دے اس کی اتباع ساری امت پر لازم قرار پا جائے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ حق صرف امت کے قرآنی نظام کو حاصل ہے کہ وہ روایات کے اس ذخیرہ کو چھان پھٹک کر دیکھئے کہ اس میں کون سی چیز صحیح ہو سکتی ہے اور کون کون سی جزئیات ایسی ہیں کہ جن میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ دیکھئے کہ اس کے باوجود جماعت اسلامی ”طلوع اسلام“ کو مسلسل اور پیغم منکر حدیث اور منکر شان رسالت ثہرا کر ایک بہت بڑے فتنے کا موجب قرار دیتی رہتی ہے اور اپنے امیز کو حدیث کا سب سے بڑا حامی اور سنت کا جید مقع قرار دیتی ہے۔“

اس کے جواب میں جماعت اسلامی والے کہیں گے کہ یہ اقتباسات مودودی صاحب کی تحریروں سے توڑ موز کر لکھ دیئے گئے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم آپ سے صرف اتنا عرض کریں گے کہ ان کتابوں کو نکال کر اپنا اطمینان خود کر لیجئے کہ یہ اقتباسات سیاق و سبق کے مطابق ہیں یا توڑ موز کر لکھے گئے ہیں۔ مجھ اور جھوٹ خود سامنے آ جائے گا۔ (از "طلوع اسلام" کراچی، جلد ۸، شمارہ ۹، ۲ اپریل ۱۹۵۵ء)

علمائے کرام پر طعن

حلقة بگوشان مودودیت علمائے کرام کو یہ طعنہ دیتے ہیں: "گر مولوی آپس میں لڑنے کے عادی ہیں۔ اس لیے مودودی صاحب سے بھی اپنی عادت کے مطابق دست گیریاں ہو رہے ہیں"۔

بھائی جانا!

غلام احمد پرور تو مولوی نہیں ہے وہ تو مشریح ہے۔ اس نے مودودی صاحب کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے کہ

"مودودی صاحب بھی میری طرح منکر حدیث ہیں"۔

پہلے اس مشریح سے تو پنٹ لوکہ نہیں صاحب ہم اور ہیں اور آپ اور ہیں۔ خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم مولوی کسی دنیاوی غرض سے آپ کی مخالفت نہیں کر رہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی حفاظت کے لیے اور آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے خطاب کر رہے ہیں۔ مودودی صاحب نے جب اسلام کی جزیں اکھیز نے کافی صد کیا تھا تو کیا علمائے مودودی صاحب نے مشورہ کیا تھا۔

مسلمانوں سے مودودی صاحب نے یہ دریافت کر لیا تھا کہ میں یہ لکھنے والا ہوں کہ خانہ کعبہ کے ہر طرف گندگی ہے۔ میں نے توجہ نہیں کیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ میں لکھ دوں اور کیا حکومت سعودیہ سے پہلے دریافت کر لیا تھا کہ مجھے کسی کذاب اور دشمن خانہ کعبہ نے یہ اطلاع دی ہے، یہ ٹھیک ہے۔

تمام مفسرین اور محمد شین کی توهین

قرآن اور سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے۔ مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے پڑھانے والے ایسے ہونے چاہئیں جو قرآن اور سنت کے مفہوم کو پاچکے ہوں۔ ماذواز تتفییحات مودودی صاحب، صفحہ ۳۳، ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ، ۷ جون ۱۹۰۹ء)

کیا مودودی صاحب کے اس اعلان میں تمام مفسرین اور محمد شین کی توهین نہیں ہو گئی کہ آپ سب کی تفاسیر اور احادیث کے مجموعے بیکار ہیں۔ ان کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

مودودی صاحب بھول گئے

مودودی صاحب جب اور کی سطہ میں لکھنے پہنچے ہیں یہ کہ تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں "جب وہ ذخیرے بیکار ہو گئے ہیں پھر آپ سنت کامل سے لیں گے، جس کے مفہوم کو پانے والے قرآن پڑھائیں گے۔ غالباً مودودی صاحب سطر لکھنے وقت پہلی سطر بھول گئے ہوں گے۔

و عا

اے اللہ! ہمیں رسول اللہ ﷺ دے دین پر استقامت عطا فرمادا اور

مودودی صاحب کو اس گمراہی کے گزٹھے سے نکال۔ آمین ثم آمین۔

مودودی صاحب کی طرف سے تمام مجددین کی توهین

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سارے نظام عالم کو کلمہ کن سے بھی چلا سکتا ہے مگر اس نے اپنی مرضی سے سلسلہ اسباب بنایا ہوا ہے کہ ہر ایک کام سلسلہ اسباب کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ اگرچہ کبھی کبھی قدرت کا کرشمہ دکھا بھی رتا ہے کہ میں ظاہری اسباب کے سواب بھی کام کر سکتا ہوں۔ مثلاً اولاد، ہمیشہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی پیدا ہوتی ہے مگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن بات پیدا کر کے دکھادیا کہ میں بن بات پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بن مال بات پیدا کر کے دکھادیا کہ میں بن بات پیدا کر سکتا ہوں۔

قرآن مجید کی حفاظت کے اسباب

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نقوش اور طرز تحریر کو کاتبین کے ذریعہ سے محفوظ رکھا۔ الحمد للہ!

عربی نویس کاتب اس مبارک زمانہ سے لے کر جو آج تک ہر جگہ موجود ہیں قرآن مجید کے نقوش کے تلفظ کی حفاظت حفاظ قرآن مجید کے ذریعہ سے کرائی۔ وہ حضرات ان نقوش کا صحیح تلفظ ادا کر کے نادیتے ہیں اور دوسروں کو سکھادیتے ہیں۔ ان الفاظ کے معانی اور مطالب کا حل اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے ذریعہ سے آج تک کرایا۔

رحمۃ للعلمین کے مبارک زمانہ سے لے کر آج چودھویں صدی تک

علمائے کرام قرآن مجید کے معانی اور مطالب کا حل سنناً بعد نسل مسلمانوں کو سمجھاتے آئے ہیں اور اپنی صحبت میں عملی رنگ صوفیائے کرام چڑھاتے آئے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔

کیا استاد سے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لینے کے بعد طالب علم علامات توکل بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ہاں کسی متوكل کامل کے پاس کچھ عرصہ تک رہے۔ بشرطیکہ کامل کے ساتھ عقیدت، ادب اور اطاعت میں فرق نہ آئے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے کامل کی صحبت کی برکت سے یہ شخص بھی متوكل ہو جائے گا۔ یعنی ماسوئی اللہ سے بے نیاز ہو جائے گا اور فقط ایک اللہ پر اس کا بھروسہ ہو جائے گا۔

ایک خدمت باقی

ابھی قرآن مجید کی حفاظت کی ایک خدمت باقی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلی امتوں نے اپنے اپنے دین کی تحریف کی ہے۔ یعنی بعض ضروری حصے دین کے نظر انداز کر دیئے اور بعض غیر ضروری چیزوں کو دین کا جزو بنالیا۔ اس تحریف کی اصلاح کے لیے گر شستہ زمانہ میں پیغمبر تشریف لایا کرتے تھے۔

مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اس قسم کے انبیاء علیم السلام کافی تعداد میں پیدا ہوئے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور انور ﷺ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروالیا:

ان الله عز و جل يبعث لهذة الامته على

راس كل مايئه من يجدد لها دينها (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: ”بے شک اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر صدی

کے سرے پر ایسا شخص بھیجے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کر دے گا۔

یہ حدیث محدثین کے ہاں صحیح ہے اور اس کے راوی سب ثقہ ہیں۔ یعنی اس حدیث کے رحمۃ للعلمین کا ارشاد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

مجد دیکھا کرے گا

يَبْيَنُ الْسَّنَةَ مِنَ الْبَدْعَةِ وَيَكْثُرُ الْعِلْمُ وَيَنْصُرُ
أَهْلَهُ وَيَكْسِرُ أَهْلَ الْبَدْعَةِ وَيَذْلِلُهُمْ قَالُوا وَلَا يَكُونُ
الْأَعْالَمُ بِالْعِلُومِ الْدِينِيَّةِ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ قَالَهُ
الْمَنَاوِيُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّفِيرِ وَ
قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِي شَرْحِهِ مَعْنَى التَّجْدِيدِ أَحْيَاءُ
انْدِرَسُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَالْأَمْرِ
بِمَقْتَضَاهِمِ مِنْ عَوْنَ الْمَعْبُودِ شَرْحُ أَبِي دَاؤِدِ۔

ترجمہ: ”سنۃ کو بدعت سے جدا کرے گا۔ علم کو پھیلانے گا، اہل علم کی مدد کرے گا اور بدعتیوں کی کرہت توڑے گا اور انہیں زلیل کرے گا۔

فرمایا:

”وہ علوم دینیہ ظاہرہ اور باطنہ کا عالم ہو گا۔ یہ بات مناوی نے فتح القدر شرح جامع الصغیر میں کی ہے اور علقمی نے اپنی شرح میں کہا ہے تجدید کے معنی ان چیزوں کو زندہ کرنا ہے جو کتب و سنۃ میں سے عمل کرنے میں مست گئی ہوں اور کتب و سنۃ کے تقاضوں کے مطابق حکم نہ کیا جاتا ہو۔“

اس کی شہادت

قال الحاکم سمعت ابوالولید حسان بن محمد الفقیہ یقول غیر مرہ سمعت شیخا من اهل العلم یقول... لابن العباس ابن سریع البشر ایها القاضی فان الله من علی المسلمين بعمر بن عبدالعزیز علی رأس المائة فاظهر کل سنۃ و امات کل بدعة و من الله علی رأس المائتين بالشافعی حتی اظهر السنۃ و اخفی البدعة من عون المعبد شرح ابن داؤد۔

ترجمہ: "حاکم نے کہا میں نے ابوالولید حسان بن محمد فقیہ سے بارہا سنائے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے علماء میں سے ایک طبقے سے نا ہے جو ابوالعباس ابن سریع کو کہہ رہے تھے "اے قاضی! تمہیں مبارک ہو۔ کہ اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو صدی کے سرے پر بھیج کر مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ اس نے ہر سنت کو زندہ کر دیا ہے اور ہر بدعت کو مٹا دیا ہے اور اللہ نے دوسرا صدی کے سرے پر شافعیؓ کے ذریعہ سے احسان کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے سنت کو زندہ کر دیا ہے اور بدعت کو مٹا دیا ہے۔"

حاصل

یہ نکلا کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد پیدا ہو گا جو عالم دین ہو گا۔ اپنی قوت ایمانی اور جرات خدارا اور اپنی علمی قابلیت کے شرہ آفاق ہونے کے لحاظ سے ہر سنت کو زندہ کرے گا اور بدعت کو پامال کر دے گا۔

حافظت دین میں مجدد کی ضرورت

سابق سطور سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جس طرح نقوش قرآن مجید کے تحفظ کے لیے عربی نویس کاتبین کا پایا جانا ضروری ہے، جس طرح ان نقوش کے صحیح تلفظ بتلانے کے لیے قارئین کرام کا وجود ضروری ہے، جس طرح الفاظ قرآن مجید کے معانی اور مطالب سمجھانے کے لیے عربی دان علمائے کرام کا وجود ضروری ہے، ان خدام محافظین قرآن مجید کا وجود پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک بفضلہ تعالیٰ موجود ہے۔

اسی طرح مجددین کرام کا وجود مسعود بھی ہر صدی میں ہوتا ضروری ہے تاکہ ہر دور میں جو بدعات دین محمدی میں داخل ہوں، ان سے دین کو پاک کر کے مسلمانوں کو اصلی دین سے روشناس کرائیں۔ اگر مجددین حضرات کا وجود نہ پیدا ہوتا تو خدا جانے آج تک اصلی نقشہ اسلام کا موجود بھی رہتا یا نہ رہتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ مجددین کی خدمات بھی تحفظ قرآن مجید کے لیے لازمی ہیں۔ اس لیے مجددین کا وجود مسعود ایک اشد ضروری چیز ہے۔

مجدد کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ

”یہ ہوا کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد پیدا ہو گا۔ جو دین کی تجدید کر دے گا۔“

چنانچہ ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہے جنہیں رسول اللہ ﷺ کی امت مجدد مانتی ہے اور ان کے ناموں کی فہرست بھی محمد شین حضرات کی شروح حدیث اور فقہاء عظام کے فتاویٰ میں موجود ہے۔

مودودی صاحب کا فصلہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف

”مجد کامل کا مقام تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجد کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اس عظیم منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

ان کے بعد جتنے مجد پیدا ہوئے، ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا اور مجد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے۔ (از ”تجدید احیائے دین“ مؤلفہ مودودی صاحب صفحہ ۳۱، چوتھا ایڈیشن)

رسول اللہ ﷺ کی توہین اور اجماع امت کی توہین

کیا مودودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب تک کوئی مجد کامل پیدا نہیں ہوا ہے؟

اس میں حضور انور ﷺ کو جھٹایا نہیں جا رہا؟ کیا آپ ﷺ کا یہ مطلب تھا کہ چودھویں صدی تک سب ناقص ہی ناقص مجد پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد کہیں مجد کامل پیدا ہو گا اور پھر اس کی میعاد بھی کوئی معین نہیں۔ خدا جانے کب پیدا ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے ناقص مددوں کا اعلان فرمایا اور چودھویں صدی تک امت اس اعلان کا غلط مطلب سمجھتی رہی کہ آپ کے فرمانے کے بعد ہر ایک صدی میں یہ مبارک لقب مجد کا اس دور کے مجد کو دیتی رہی۔ اب چودھویں صدی میں

مودودی صاحب

نے پیدا ہو کر اس حدیث کا مطلب لوگوں کو سمجھایا ہے اور کیا خوب محققانہ علم ہے۔ خدا تعالیٰ جب عقل چھین لیتا ہے تو ایسی ہی باتیں زبان اور قلم سے نکلا کرتی ہیں۔ **إِنَّا إِلَلَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**.

مودودی صاحب فرمان نبوی ﷺ کا مطلب ہی نہیں سمجھے

مودودی صاحب! آپ حضور انور ﷺ کا فرمان ہی نہیں سمجھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قواعد عربی سے آپ ناواقف ہیں۔ فرمان یہ ہے:

ان الله عز و جل يبعث لهذه الامة على راس
كل مائة من يجدد لها دينها۔

مودودی صاحب! یہ جملہ اسیہ ہے جو دام و استمار کے لیے ہوتا ہے اور پھر جملہ اسیہ پر مزید تأکید کے لیے ”ان“ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں شک ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسا شخص بھیجے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کر دے گا۔

مودودی صاحب کی نظر میں اس وہڑے کے اعلان کی حقیقت

رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبری اور وہڑے کے طور پر یہ اعلان فرمایا:

”کہ اے مسلمانو! فکر نہ کرو ہر صدی میں ایسے مجاہد مجدد پیدا کر دوں گا جو تمہارے دین کے جھنڈے کو سر بلند کر دیا کریں گے۔“

مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ”آج تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا یعنی جو مجدد

پیدا ہوئے، سب ناقص پیدا ہوئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اعلان کرنے کے بعد مجد کامل پیدا کرنے کی اب تک توفیق نہیں ہوئی۔ فَعَوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكَ

مودودی صاحب کے عقیدہ کے مطابق مجددین کی مثال

مثلاً ایک شخص کسی بزرگ سے اپنے ہال بیٹھے پیدا ہونے کی دعا کرتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں میری دعا قبول فرمائی ہے۔ چار بیٹھے تمہیں عطا ہوں گے لیکن سب مخت لیعنی یہ جڑے ہوں گے۔ کیا وہ دعا کرانے والا خوش ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں دعا خوب قبول ہوئی ہے۔

دعا

اے اللہ! تو میری ان فرمائیں کہ مودودی صاحب اور ان کے حلقہ گوشان کو بدایت عطا فرماؤ اور انہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر پھر اپنے پچے اسلام کا مقیم بن۔ آمین ثم آمین۔

مودودی صاحب کا اتباع سنت کا نظریہ "قرآن مجید"

"رسول اللہ ﷺ" اور تمام مسلمانوں سے الگ ہے

رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم

قولہ تعالیٰ : **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرَ اللَّهِ كَثِيرًا**۔ (سورہ الاحزاب، رکوع نمبر ۳، پارہ ۲۱)

ترجمہ: "البیتہ تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے"۔

حاصل یہ تکاکہ مسلمانوں کو ہر حالت، ہر نقل و حرکت، ہر معاملہ حتیٰ کہ کھانے پینے (مثلاً دائیں ہاتھ سے کھانا) کھانے سے پہلے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھ لیا کرو۔ اپنے آگے سے کھاؤ۔ دوسرے کے آگے سے چیز مٹ اٹھاؤ۔ اگر مثلاً کھجوریں ہیں اور دوسرے ساتھی کے ساتھ کھارہ ہے ہو تو دو دو اکٹھی مت کھاؾ اور پیتے وقت باہمیں ہاتھ سے مت پیو وغیرہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی تبعداری کا نام اتباع سنت ہے۔ سنت کا معنی طریقہ ہے یعنی زندگی کے ہر معاملہ میں پیغمبر خدا ﷺ کے نقش قدم پر چلو۔

پہلے لوگوں کا طریقہ

قولہ تعالیٰ : يُرِيدُ اللَّهُ لِيَبْيَنَ لَكُمْ وَيَهْدِيْكُمْ
 سُنَّةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ (سورہ ناء، رکوع ۵، پارہ ۵)

ترجمہ : ”اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔“

حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مقبول بندوں کی راہ پر چلائے۔ یعنی جس طرح وہ نیکیاں کرتے تھے اسی طرح مسلمان بھی نیکیاں کریں اور جس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے ذر کر برائیوں سے بچتے تھے اسی طرح مسلمان بھی بچیں۔

قولہ تعالیٰ : سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ
 رَّسُولِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسْتِنَا تَحْوِيلًا (سورہ بنی اسرائیل،
 رکوع ۸، پارہ ۱۵)

ترجمہ : ”تم سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں، ان کا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔“

حاصل یہ نکلا کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہی دستور تھا جو تمہیں دیا گیا ہے یعنی تمہارا دستور اور پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دستور ایک ہی قسم کا ہے۔ اگرچہ بعض جگہ صورت میں ذرا سافرق ہو جائے تو مفہاًمہ نہیں۔

قرآن مجید کی تینوں شہادتوں کا نتیجہ

میں نے گزشتہ سطور میں قرآن مجید سے تین شہادتیں پیش کی ہیں۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ سنت کے معنی طریق کار کے ہیں۔ یعنی رسول اللہ ﷺ اور پسلے اللہ کے نیک بندوں کے طریق کار کو اختیار کرو اور اسی کے مطابق زندگی برکردا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَمْسِكٍ بِسُنْتِي عِنْدَ فَسَادٍ أَمْتَى فِلَهُ أَجْرٌ مَائِذَةٌ
شَهِيدٌ رَوَاةُ الْبَيْهِقِي

ترجمہ: ”ابی ہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جس شخص نے میری امت کے حالات بگزنا کے وقت میری سنت پر عمل کیا تو اس کے لیے سو شہید کا اجر ہے“۔

عَنْ بَلَالِ بْنِ حَارِثَ الْمَزْنَى قَالَ قَالَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْيَا سَنَةً مِنْ سُنْتِي قَدْ أَمْيَتَتْ بَعْدَئِي فَإِنْ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْوَرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا (الْحَدِيثُ)

ترجمہ: ”بلال بن حارث مزنی“ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جس شخص نے میری اس سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹا دی گئی تھی اس شخص کو ان لوگوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا جو اس پر عمل کریں گے اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی“۔

دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص امت کے حالات بگزنا کے

وقت بھی آپ ملٹیپلیکیٹ کے مبارک طریقہ کا اتباع کرتا رہے، اسے سو شہیدوں کا اجر عطا ہوگا اور جس شخص نے آپ کا کوئی ایسا طریقہ زندہ کر دکھایا، جو آپ کے بعد آپ ملٹیپلیکیٹ کی امت نے نظر انداز کیا ہوا تھا بلکہ وہ مليا میث ہی ہو گیا تھا تو اسے ان سب کے عمل کرنے کا اجر ملے گا جو اس کی توجہ دلانے کے بعد عمل کریں گے۔

فعليکم بسننی و سنة الخلفاء الراشدین
المهديين تمسكوا بها و عضوا بالنواخذة (الجیث
ابوداؤد ملحوظ)

ترجمہ: "جب تم امت میں بت اختلاف پاؤ تو میرے طریقہ اور خلافت راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقہ کو اختیار کرو اور اس طریقہ کو دانتوں سے مضبوط پکڑے رہو۔"

رسول اللہ ملٹیپلیکیٹ نے امت کے اختلاف کے وقت اپنے طریقہ کار اور خلافاء راشدین کے طریقہ کار اور طرز عمل کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا پلے حقیقی مومن اور متقی اور محسن بن کر پھر ہماری سنت پر عمل کرنا۔

مودودی صاحب کے ہاں سنت کے معنی

اگر اتباع سنت نام ہے اس طرز عمل کا جو نبی ملٹیپلیکیٹ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہدایت الہی کے تحت اختیار کیا تھا تو یقیناً یہ سنت کی پیروی نہیں بلکہ اس کی خلافت ورزی ہے کہ حقیقی مومن مسلم، متقی اور محسن بنائے بغیر لوگوں کو متفقین کے ظاہری سانچے میں ڈھانلنے کی کوشش کی جائے اور ان سے محسین کے چند مشہور و مقبول عام افعال کی نقل اتر والی جائے۔ (منقول از "تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں" مؤلفہ مودودی صاحب، ص ۵۳)

تمام مسلمان اور خود مودودی صاحب اور ان کے حلقہ بگوشان اس عبارت کو غور سے پڑھیں۔ کیا اس عبارت سے بالکل واضح طور پر یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مسلمان کو پہلے حقیقی مومن، مسلم، متqi اور محسن بننا چاہیے۔ اس کے بعد مومنوں اور مسلمانوں اور متقيوں اور محسینوں کے افعال کی پیروی کرنی چاہیے یعنی ان مراتب کے حاصل ہونے کے بعد اسے کما جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ رو، حج کرو جہاد کے لیے تیاری کرو اور جب حکومت اسلامیہ جہاد کے لیے بلائے تو فوراً میدان جہاد میں پہنچ جاؤ وغیرہ وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ کا اسلام

قوله تعالیٰ: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ○ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ○ (سورہ الانعام،
پارہ ۸، رکوع ۲۰)

ترجمہ: ”کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا منا اللہ کے لیے ہی ہے جو سارے جہان کا پانے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا تھا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔“

قوله تعالیٰ: فَلَمَّا أَسْلَمَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينَ○ وَ
نَادَيْنَهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ○ قَدْ صَدَقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّ
كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (سورہ السفت، رکوع ۲۳، پارہ

ترجمہ: ”پس جب دونوں (ابراهیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام) نے تسلیم کر لیا اور اس نے اسے پیشانی کے بل ڈال دیا اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم تو نے خواب چاکر دکھایا۔ بے شک ہم اسی طرح نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔“

حاصل یہ ہے کہ اتنی بڑی قیانی کرنے کے بعد دربار اللہ سے محسن کا لقب عطا ہوا ہے۔

مودودی صاحب کا نیا اسلام

محمدی (مشتہیم) اسلام یہ کہتا ہے کہ اول نیکیاں کرو۔ مٹا تو حید کا اقرار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ فرض ہے تو دو، حج فرض ہو چکا ہے تو کرو۔ پھر تمہیں مسلمان ہونے کا تمغہ ملے گا۔ بخلاف اس کے مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ”پہلے حقیقی مومن، مسلم، متقی اور محسن بنو، اس کے بعد متقوں کو ظاہری سانچے میں ڈھلنا، یعنی پھر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔“

مودودی صاحب! جب آپ فرماتے ہیں کہ پہلے انسان کو حقیقی مومن مسلم، متقی، اور محسن بنالیا جائے آپ نے مسلمانوں کو یہ نہیں بتالیا کہ آپ کے نئے اسلام میں وہ کون سا پروگرام ہے، جس پر عمل کرنے سے وہ حقیقی مومن، مسلم، متقی اور محسن بن جائیں گے۔ ان تمغوں کے حاصل کرنے کے بعد وہ محمدی مشتہیم اسلام کے متقوں کے سانچے میں ڈھالے جائیں گے۔ یعنی اس کے بعد حضور کی سنت کا اتباع کریں گے پھر وہ ذکر قلبی یا زبانی کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، پھر روزے رکھیں گے پھر حج کریں گے وغیرہ وغیرہ۔

قولہ تعالیٰ : لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تَوْلُوا وَجْهَكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لِكِنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمْنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِئَكَةِ وَالْكِتَابِ وَ
النَّبِيِّينَ وَأَئِمَّةِ الْمَالِ عَلَى حُجَّتِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَ
الْيَتَمَّى وَالْمَسِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَ
فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكُوَةَ وَ
الْمُؤْفَقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورہ البقرہ، رکوع ۲۲)

(پارہ ۲)

ترجمہ: ”یہی کیسی نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کو لیکن نیکی وہ ہے جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت پر مال، رشتہ داروں اور تیہیوں کو اور محتاجوں اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو دے اور گرد نیس چھڑانے میں (صرف کرے) اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وعدہ کریں اور سختی میں اور تکلیف اور لڑائی کے وقت ثہرنا والے وہی لوگ ہیں جو پچھے ہوئے اور وہی پر ہیز گار ہونے والے ہیں۔“

نتیجہ یہ نکلا کہ اعتقادات صحیح رکھنے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے متقی ہیں۔ یعنی ذکور الصدر نظام الاوقات (پروگرام) پر عمل کرنے والوں کو متقی کامبارک لقب عطا ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مودودی صاحب کا یہ خیال غلط ہے کہ پہلے حقیقی مومن، متقی اور محسن بنایا جائے پھر ان سے متقویوں کے اعمال کرائے جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

فقط اللہ تعالیٰ کی رضا

مودودی صاحب! میں نے اپنے مضامین کی نو قطعوں میں جو کچھ عرض کیا ہے، وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کا اصلی دین صحیح صورت میں محفوظ رہے۔ جس دین کے ترجمان قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے اور جس دین کے پھیلانے کے لیے رحمۃ للعالمین علیہ العلوة والسلام مبعوث ہوئے تھے اور شاید آپ نے دین اللہ کے ایک ایک ستون کی جو توہین کی ہے اس سے آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور پھر آپ اپنے نئے اسلام سے تائب ہو کر اصلی دین محمدی کی طرف پھر آئیں۔

مودودیوں کی برا فروختگی

مودودی صاحب! آپ کے حلقة بگوشان آتش بنعل اور سخن پا ہو رہے ہیں کہ مودودی صاحب کی تحریرات پر نکتہ چینی کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ اور آپ کے حلقة بگوشان اپنے گرباں میں سونہ ڈال کر دیکھیں تو سب سے بڑے نکتے چین تو خود آپ ہیں۔

کیا آپ نے تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام مجددین، حتیٰ کہ محلبہ کرام اور رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدس پر نکتہ چینی نہیں کی ہے؟ اگر میں نے آپ کی بے ادبی اور گستاخانہ عبارتوں پر آپ کو متبرہ کرنے کے لیے قلم اٹھایا تاکہ شاید آپ کو ہدایت ہو جائے اور مسلمان آپ کے نئے اسلام سے بچ کر اصلی محمدی ﷺ اسلام پر قائم رہیں تو اس پر چیز بچیں ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو آپ کے فتنہ سے بچانے کے لیے حق بجانب نہیں ہیں۔ اگر آپ کی جماعت مسخر نہیں ہوئی تو اسے ناراض نہیں

ہونا چاہیے۔

اگر آپ کو گمراہی پھیلانے کا حق حاصل ہے تو کیا ہمیں سچے اسلام کا اخبار میں اعلان کرنے کا حق نہیں ہے؟ بالخصوص جب کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے احباب مجھ سے تحریک مودودیت کے متعلق سوال کریں۔

مودودی صاحب کے حلقہ بگوشان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مودودی صاحب پر اعتراض کرنے والے ان کی عبارتوں کے سیاق و سبق کو نہیں دیکھتے۔ جو فقرہ قابل اعتراض ہوتا ہے فقط اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور فقط اسی فقرہ کے باعث مودودی صاحب پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔

برادر ان اسلام! سیاق و سبق سے مودودیوں کی یہ مراد ہوتی ہے کہ اگلی پچھلی عبارتوں کو دیکھ کر پھر اعتراض ہو تو کرنا چاہیے۔

ایک عمدہ مثال

اگر دس سیر دودھ کسی کھلے منہ والے دیکھجے میں ڈال دیا جائے اور اس دیکھے کے منہ پر ایک لکڑی رکھ کر ایک دھاگہ میں خزری کی ایک بوٹی ایک تو لہ کی اس لکڑی سے باندھ کر دودھ میں لٹکا دی جائے پھر کسی مسلمان کو اس دودھ میں سے پلایا جائے، وہ کہے گا کہ میں اس دودھ میں سے ہرگز نہیں بیوں گا۔ کیونکہ سب حرام ہو گیا ہے۔

پلانے والا کہے کہ بھائی دس سیر دودھ کے آٹھ سو تو لے ہوتے ہیں۔ آپ فقط اس بوٹی کو کیوں دیکھتے ہیں دیکھتے اس بوٹی کے آگے پیچھے، دامیں بائیں اور اس کے نیچے چار انج کی گمراہی میں دودھ ہی دودھ ہے۔ وہ مسلمان یہی کہے گا کہ یہ سارا دودھ خزری کی ایک بوٹی کے باعث حرام ہو گیا ہے۔ یہی قصہ مودودی صاحب کی عبارتوں کا ہے۔ جب مسلمان مودودی صاحب کا یہ لفظ پڑھے گا کہ

”خانہ کعبہ کے ہر طرف جمالت اور گندگی ہے“

اس کے بعد مودودی صاحب ہزار تعریف کریں مگر جب تک مودودی صاحب اس فقرہ سے توبہ کر کے اعلان نہیں کریں گے مسلمان کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ یہ خزیر کی بوئی اس دوڑھ سے نہیں نکالیں گے۔

پھر مودودی صاحب کے حمایتی کہتے ہیں کہ معتبرین مودودی صاحب کی عبارتوں میں سے چن چن کر قابل گرفت فقرے نکال لیتے ہیں۔ مودودی صاحب کے حمایتیوں سے پوچھتا ہوں کیا مودودی صاحب نے جو تمام محمد شین، تمام مفسرین، تمام مجددین اور صحابہ کرام اور رسول اللہ ﷺ پر نکتہ چینی کی ہے، کیا ان سب مقدس حضرات کی سوانح عمریاں بالتفصیل لکھ کر نکتہ چینی کی ہے کیا یہ نہیں کیا؟ جو ان کے خیال میں قابل گرفت چیزیں تھیں ان کو چن چن کر اعتراض کر دیا ہے۔

مودودی دوستوا ”یہ چن چن کر“ کا راستہ مودودی صاحب ہی کا گھر اہوا ہے۔

اللہ والوں کا طریقہ

تحریک مودودیت کے جانشروا! اللہ والوں کا طریقہ یہ نہیں ہو تا جو مودودی صاحب نے اختیار کر رکھا ہے کہ ہر مقدس ہستی کی توبین کرنا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:

”ہر کافر، فرنگ اور ملحد اور زندیق کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے۔“

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں اس قدر اکساری اور تو واضح اور عاجزی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کافر کئے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ:

”مجھ سے تو وہ اچھا ہی ہے۔“

سارا ہندوستان اور پاکستان انہیں مجدد کا خطاب دیتا ہے۔ مگر مجدد صاحب اپنے آپ میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں تو کافر سے بھی برآ ہوں۔

دعا

خدا تعالیٰ! مودودی صاحب کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی باطنی نعمت عطا فرمائے اور انہیں بھی دوسروں کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنا عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

نہ تھی حال کی جب کہ اپنے خبر
نظر آتے تھے سب کے عیب و ہنر
پڑی حال کے جب کہ اپنے نظر
کسی کا کوئی عیب ہی نہ رہا

و ما علینا الا البلاغ

مودودیت کا پول کھونے کی ضرورت

مودودی صاحب کی طرف سے تمام مسلمانوں کو اعلان جنگ

مودودی صاحب نے تمام مسلمانوں کے خلاف پہلے اعلان جنگ کیا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے متفقہ اور مسلم عقائد پر وہ شدید اور ناقابل برداشت حملے کیے ہیں جنہیں کوئی مسلمان (سوائے ان کے کہ جن کی آنکھوں پر مودودیت کی پٹی باندھی جا چکی ہے) برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہنا کہ "مولوی صاحبان مودودی صاحب سے لڑتے ہیں" یہ غلط ہے۔ کیا جب ڈاکو کسی کے گھر میں گھس آئے تو گھروالا ڈاکو سے مقابلہ کر کے اپنا مال اور اپنی جان نہ بچائے اور اگر مال اور جان بچانے کے لیے ڈاکو سے مقابلہ کرے تو پھر یہ کہنا صحیح ہے کہ: "گھروالا براہی بے انصاف ہے ڈاکو سے لڑ رہا ہے"۔

اللذ امحض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عاجز نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مودودی صاحب کی کتابوں سے نو قطعوں میں ایسے ہوا لے "نوائے پاکستان" میں شائع کیے ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ والے تیرہ سو سالہ اسلام کی جزیں ہل جاتی ہیں۔

اور میرے حوالہ جات کے متعلق مودودی جماعت کے اخبار، ہفت روزہ "ایشیا" کے ۲ جون ۱۹۵۵ کے پرچہ کے صفحہ اول میں میرے متعلق مضمون نگار (جو غالباً میرے پرانے اور پیارے دوست ملک نصر اللہ خاں صاحب عزیز ہیں جو آج کل فنا فی المودودیت ہیں) نے تسلیم کیا ہے کہ "احمد علی" مودودی صاحب کی کتابوں کے حوالے صحیح نقل کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اور اللہ تعالیٰ مولانا احمد علی کو جزاۓ خیز دے انہوں نے مولانا مودودی صاحب پر دنیا بھر کی مقدس ہستیوں کی توہین کرنے کا جو الزام لگایا تھا، وہ ہرچند کھینچتا تانی، مفہوم ہے لا یہ ضی بہ قائلہ کے مطابق تھا۔ تاہم انہوں نے اتنا کرم فرمایا تھا کہ مولانا مودودی کی لکھی ہوئی بعض عبارتیں پیش کر کے ان کو اپنے استدلال کا تختہ مشق بنایا تھا۔“

پھر مضمون نگار ”ایشیا“ تحریر فرماتے ہیں:

”پھر مولانا احمد علی نے تو یہ جرأۃ بھی کی تھی کہ مولانا مودودی کی عبارت کو خود اپنی طرف سے پیش کیا تھا۔“

اصول کی جنگ

دنیا میں ابتدائے عالم سے یہ قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ ہر قوم اپنے اصول مسلم کی حفاظت کے لیے سرکفت رہی ہے اور جب کبھی کسی دوسری قوم نے اس کے اصول مسلم کی نیجگنی کے لیے قدم اٹھایا تو اس قوم نے اپنے اصول کی حفاظت کے لیے سردھڑکی بازی لگادی۔

مثلاً ایک قوم نے باپ داؤ سے اپنی ریاست کی حدود معین کی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے زیر نگیں رقبہ کی حدیں ہیں۔ اس کے بعد جس قوم نے ان حدود میں مداخلت کرنی چاہی کہ یہ حدود تمہاری نہیں بلکہ ہماری ہیں تو پہلی قوم نے اپنی حدود کو محفوظ رکھنے کے لیے آخری قطرہ خون بھی بھا دیا اور بالفرض اس پہلی قوم نے کاملی اور سستی سے کام لیا تو دوسری قوم پہلی قوم کے مقبولضات پر قابض ہوتی گئی اور پہلی قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں فقط دو ہی قوم زندہ رہ سکتی ہے جو اپنے مسلمات کی حفاظت کے لئے وقت سرکفت رہے۔

دنیاداروں اور دینداروں کی لڑائی کا فرق

برادران اسلام! دنیاداروں اور دینداروں کی لڑائی میں ایک اصولی فرق ہوتا ہے۔ دنیادار محض اپنے ذاتی مفاد اور دنیوی اغراض پوری کرنے کے لیے دست بگزیاں ہوتے ہیں مگر دیندار خدا پرست رضاۓ مولیٰ کے طالب انسانوں میں اس لڑائی میں فقط رضاۓ مولیٰ مطلوب اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت پیش نظر ہوتی ہے۔

مودودی صاحب سے مخالفت کی وجہ

خدا کی قسم مجھے مودودی صاحب سے کوئی عداوت نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ ان کے متعلق تحریر کیا ہے، وہ محض ساڑھے تیرہ سو سالہ اسلام کی مخالفت اور اس کے علمبرداروں کی توجیہ و تحقیق جو انہوں نے کی ہے، اسے برداشت نہیں کر سکا۔

اور چونکہ وہ اپنے خیالات کا پر اپیگنڈہ اپنی جماعت کے اخبارات و رسائل میں کر رہے ہیں اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جو حرbeh مخالف ہاتھ میں ہو وہی حرbeh ہمارے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کی غلط روشن سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے خیالات کی اشاعت اخبار میں مناسب بلکہ ضروری سمجھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جا کر مودودی صاحب سے تبادلہ خیالات کیوں نہیں کر لیتے۔ کیا مودودی صاحب نے مقتدر علماء کرام سے مشورہ لے کر اپنے خیالات شائع کیے تھے؟ انہیں پہلے چاہیے تھا کہ میں آپ کے اسلام کا وکیل بن کر اپنے یہ خیالات شائع کرنے والا ہوں کیا آپ کو میرے خیالات سے اختلاف تو نہیں؟

مودودی صاحب کے پاس اپنے خیالات فاسدہ کی اشاعت کے لیے اخبار ہیں تو الحمد للہ ہمارے پاس بھی اسلام کا درود میں رکھنے والے اور اسلام کے فدائی مسلمانوں کے اخبار موجود ہیں۔ آج کل یہ سرا "نوازے پاکستان" کے سپر اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام ذمہ داروں کو جزاۓ خیر دے اور ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔

مولانا مرتضی احمد خان میدان میں لائے

برادران اسلام! مودودی صاحب کی کتابوں کے جو حوالے میں نے "نوازے پاکستان" میں شائع کیے ہیں۔ وہ کم از کم آج سے تین چار سال پہلے کے مرتب شدہ تھے۔ اور اسی وقت سے میں نے ان حوالوں پر علماء پنجاب ریاست بہاولپور، صوبہ سندھ اور یوپی کے بعض علماء کی تصدیقات لکھائی ہوئی ہیں۔

اصلی بات

یہ ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان خواہ جاہل ہو یا عالم اسلام سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، مودودی صاحب نے جب اپنی جماعت کا نام "جماعت اسلامی" رکھا تو مسلمان اس نشان کو ہی دیکھ کر اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بالخصوص جب مودودی صاحب نے اپنی جماعت سے "دستور اسلامی" کا نعرہ لگوایا، پھر تو جاہل کیا عالم بھی اس جماعت کا شکار ہونے لگ گئے۔ چنانچہ اسی نعرے کی بناء پر کئی عالم مودودی جماعت میں شامل ہیں۔

گمراہ

یہ ہے کہ جب میں نے علمائے کرام کو مودودی صاحب کے خیالات باطلہ

سنائے جوان کی کتابوں سے میں نے جمع کیے ہوئے تھے جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مودودی صاحب اسلام محمدی (محلہ شیخیہ) کے خادم نہیں بلکہ اپنا ایک نیا اسلام رائج کرنا چاہتے ہیں تو سب حیران رہ گئے۔ اور بطيہ خاطر میری تائید کی جن کی تصدیقات اس رسالہ کے اخیر میں درج ہیں۔

خدا کی قدرت، میرے پرانے معزز، قابل، دل کے مخلص، بہادر، دین سے خوب واقف، اسلام کا درد دل میں رکھنے والے، مسلمانوں کے سچے خیر خواہ، کمنہ مشق اخبار نویں مولانا مرتفعی احمد خاں صاحب کے قلم کارخ اللہ تعالیٰ نے مودودی تحریک کی طرف پھیر دیا اور انہوں نے ایک دو زبردست "آرمیکل" نوائے پاکستان میں مودودی تحریک کے خلاف لکھے جن سے میرے خیال میں حلقة مودودیت کے خواص میں ایک دل کی دھڑکن ضرور پیدا ہو گئی ہوگی اور ان آرمیکلوں میں مولانا موصوف نے علمائے اسلام کو دعوت دی کہ آپ بھی اس میدان میں میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیے۔ چونکہ مولانا موصوف ایک بالاخلاق انسان ہیں اور میرے بے تکلف دوست ہیں، میں نے انہیں اپنی مسجد لائیں والی دروازہ شیر انوالہ میں بلایا اور عرض کی:

"کہ آپ نے علماء کو تحریک مودودیت کے خلاف میدان میں آنے کی دعوت دی ہے۔ بنده اس میدان میں آنے کے لیے تیار ہے۔ بشرطیکہ آپ پھر پیچھے نہ ہیں"۔

انہوں نے فرمایا "کہ انشاء اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو گا"۔ چنانچہ ان کی اس تسلی دلانے پر میں نے مودودی صاحب کی کتابوں کے حوالے دینے شروع کیے۔

جزائے خیر دے

ہناوٹی نہیں، بلکہ خدا جانتا ہے کہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا

مرتفعی احمد خان کو جزاۓ خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے میرا تحریر کردہ ایک ایک لفظ شائع کر دیا اور مولانا ممدوح کے ان رفقاء کار کو بھی جزاۓ خیر عطا فرمائے جو ان چیزوں کی اشاعت میں ان کے معاون تھے۔

کھینچا تانی کا الزام

مودودی صاحب کے اخبار ایشیاء کے مدیر نے صفحہ اول پر میرے حوالہ جات کی صحت کا اقرار کر کے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے:

”کہ احمد علی نے حوالہ جات کا مطلب بیان کرنے میں ”کھینچا تانی“ سے کام لیا ہے۔“

چونکہ مجھے ملزم قرار دیا گیا ہے اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس الزام سے اپنی برات ثابت کروں۔ چنانچہ اب میں مودودی صاحب کی عبارت اور جو میں نے اس سے اخذ کیا ہے، خود مودودی صاحب اور ان کے حلقة بگوشان سے اور دوسرے مسلمانوں سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ آیا مجھ پر کھینچا تانی کا الزام عائد ہو سکتا ہے؟

جماعت مودودی کے زمہ دار حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گزشتہ بیانات میں ایک مثال آئی ہے جس میں میں نے دس سیر دودھ جس کے ۸۰۰ تو لے ہوتے ہیں اور سور کے گوشت کی ایک تو لہ کی بوٹی اس میں لٹکانے کی مثال میں نے دی ہے، فیصلہ کرنے میں میری اس مثال کو ضرور پیش نظر رکھیں۔

مودودی صاحب کی عبارت

مودودی صاحب اپنے خطبات مطبوعہ بار ہفتہ ۱۹۷۸ء کے صفحہ ۱۹۵ پر لکھتے

ہیں:

”وہ سرزین جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا، آج اسی جاہلیت کے قریب پہنچ گئی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے بتلا تھی۔ اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے نہ اسلامی اخلاق ہیں، نہ اسلامی زندگی ہے۔ لوگ دور دور سے بڑی گہری عقیدتیں لیے ہوئے حرم پاک کا سفر کرتے ہیں۔ مگر اس علاقہ میں پہنچ کر جب ہر طرف ان کو جہالت، گندگی طمع، بے حیائی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، بدانتظامی اور تمام باشندوں کی ہر طرح گری ہوئی حالت نظر آتی ہے تو ان کی توقعات کا سارا ٹلسما پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ حج کر کے اپنا ایمان بڑھانے کی بجائے اور ان کا کچھ کھو آتے ہیں۔ وہی پرانی منہت گری جو حضرات ابراہیم اور اسماعیل میلما السلام کے بعد جاہلیت کے زمانہ میں کعبہ پر مسلط ہو گئی تھی اور جسے رسول اللہ ﷺ نے آکر ختم کیا تھا، اب پھر تازہ ہو گئی ہے۔ حرم کعبہ کے منتظم پھر اسی طرح منہت بن کر بیٹھ گئے ہیں۔

میرا اخذ کردہ نتیجہ

مودودی صاحب، ان کے متعین اور تمام مسلمانوں سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ کیا خانہ کعبہ کی اس سے بڑھ کر اور زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں کہ اس عبارت کے پڑھنے سے حج سے نفرت پیدا ہو گی یا حج کرنے کی رغبت پیدا ہو گی۔ کیا شیطان حج کا ارادہ کرنے والے کے دل میں یہ خیالیں ڈالے گا کہ مودودی صاحب کے بیان کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی..... بے ایمان ہو کر آؤ۔ اس لیے اگر ایمان بچانا ہے تو گھر پر ہی بیٹھے رہو۔

عجیب بات یہ ہے کہ مودودی صاحب کو آج تک حج نصیب نہیں ہوا۔ خدا

جانے کس کذاب نے مودودی صاحب کو یہ افترانائے اور مودودی صاحب نے اس شیطان کی روایت پر اعتماد کر کے خطبات میں تحریر فرمادیے۔

مودودی صاحب کے حمایت میر ایشیاء سے عرض کرتا ہوں کہ تحریک مودودیت کی جنبہ داری سے بالکل ہی الگ ہو کر انصاف فرمائے کہ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، اس میں کون سی کھینچاتالی کی ہے؟

سب مسلمان خوش ہیں

بر اور عزیزاً الحمد للہ! مودودی صاحب کی عبارت اور میرے اخذ کردہ نتیجہ سے سوائے مودودیوں کے باقی مسلمان بڑے خوش ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں پر جو اسلام اسلام اور اسلامی جماعت، اسلامی جماعت کی پٹی باندھی جاتی تھی، وہ کھل گئی ہے۔ مولانا مرتضیٰ احمد خاں صاحب سے دریافت کیجئے کہ مسلمانوں کے کس قدر رخوٹی کے خطوط آئے ہیں۔

مودودی صاحب سے ایک سوال

آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام تمام اقوام عالم کے لیے ہے اور اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ لذا ہم مسلمان جب تمام اقوام عالم کو دعوت دیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ اور اس کے پانچ رکنوں میں سے ایک رکن خانہ کعبہ کا حج اس شخص پر فرض ہے جو مصارف سفر کی توفیق رکھتا ہو۔ پھر ہم انہیں خانہ کعبہ میں لا کر کیا یہ دکھائیں گے کہ دیکھو یہاں بقول مودودی صاحب:

”ہر طرف جمالت، گندگی، طمع، بے حیائی، دنیا پرستی، بد اخلاقی،

بد انتظامی اور تمام باشندوں کی ہر طرح گری ہوئی حالت ہے۔“

ایمان سے کہو! جب آپ بقول آپ کے (نه کہ بقول غیر) مودودی مسلمانوں

کے) ان قوموں کو جب ان چیزوں کا اپنے مقدس مقام میں لا کر مشاہدہ کراوے گے اور تقریر میں بھی یہی تلقین کرو گے تو ایمان سے کو کیا وہ اسلام سے تنفر نہ ہو جائیں گے کہ یہ اسلام کا مقدس مقام ہے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت سے بیزار نہ ہو جائیں گے؟

مسلمانوں کی عقیدت

مسلمانوں کا خانہ کعبہ کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا میں انوار الیہ کا بیطاع عظم ہے یعنی انوار الیہ کی موسلا دھار بارش ہر وقت، ہر گھنٹی، ہر آن میں خانہ کعبہ پر ہوتی رہتی ہے اور خدا پرستوں کا جتنا مجمع خانہ کعبہ کے گرد اگر دھر سال، ہر ماہ، ہر ہفتہ، ہر دن میں جمع رہتا ہے۔ دنیا کے کسی خط میں اتنا مبارک مجمع کہیں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے مقبول بندے اور جتنے اولیاء کرام وہاں موجود رہتے ہیں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔

اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے گرد اگر کہیں حطم ہے جو خانہ کعبہ ہی کا غیر مستقفل حصہ ہے اور کہیں مقام ابراہیم ہے جو بخشش سے آیا ہوا ہے اور کہیں چاہ زمزم ہے جو آج سے چار ہزار برس پسلے کی یادگار ہے جو دراصل ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بطور تحفہ کے ملا تھا اور جس کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے، وہی فائدہ دیتا ہے۔

مودودی صاحب یا ان کے رفقاء جماعت اسلامی کے نمائندے جب کسی کو خانہ کعبہ میں لے جائیں گے تو وہ وہی دکھائیں گے جو ان کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان انشاء اللہ تعالیٰ یہ دکھائیں گے جو ہمارا عقیدہ ہے۔

خانہ کعبہ کا دشمن کون ہے اور دوست کون

اے مودودی صاحب کی جماعتِ اسلامی کے نمائندوں ایمان سے چ بولو۔
 خانہ کعبہ کا دشمن کون ہے اور دوست کون۔ تم خانہ کعبہ سے نفرت دلاوے گے اور
 انشاء اللہ تعالیٰ ہم وہاں کی عظمت کا سکھ لوگوں کے دلوں پر بٹھائیں گے۔ اے
 مودودی صاحب کی اسلامی جماعت کے حلقة بگوش الصاف سے کوئی مودودی
 صاحب نے خانہ کعبہ کی توہین نہیں کی اور کیا میں نے ”کھینچاتا تی“ سے یہ نتائج
 اخذ کیے ہیں؟

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مستقیم

علمائے کرام کی تصدیقات

۱۔ حضرت مولانا محمد صادق صاحب مرحوم (صدر جمیعتہ علمائے صوبہ

سنده و سابق رکن مجلس منظہمدادار العلوم دیوبند)

مودودی صاحب کی تفہیفات کے اقتباسات کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ
”ان کے خیالات اسلام کے مقتدیان اور انبیائے کرام کی شان
میں گتابخیاں کرنے سے مملو ہیں۔ ان کے ضلال اور مضل ہونے
میں کوئی شک نہیں۔“

میری جمیع مسلمانان سے استدعا ہے کہ ان کے عقائد و خیالات سے جتنب
رہیں اور ان کو اسلام کا خادم نہ سمجھیں اور مغالطہ میں نہ رہیں۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کر اصلی وجہ سے پسلے تیں وجہ اور پیدا ہوں گے جو اس
اصلی وجہ کا راستہ صاف کریں گے۔“

میری سمجھ میں ان تیس وجہوں میں ایک مودودی ہے۔ فقط والسلام
محمد صادق عفی عنہ صدر مہتمم مدرسہ مظہر العلوم
 محلہ کھنڈہ کراچی، ۲۸ ذوالحجہ ۱۴۳۷ھ ستمبر ۱۹۵۲ء

۲۔ حضرت مولانا محمد منظور حسین صاحب قاسمی بجنوری (معتمد

روزنامہ الجمیعتہ دہلی)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

موجودہ دور کی تاریکی عرف نئی روشنی اور جمالت عرف جدید تعلیم اور تنزل عرف ترقی کے بہت سے شرمناک مشائخ کے علاوہ ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا اچھا خاصہ طبقہ ضروریات دین اور اسلامی تعلیمات و عقائد سے بے بہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام اکابر ملت کی شان میں دریدہ وہن ہوتا جا رہا ہے جو امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ستون ہیں۔

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک جتنے بھی تابعین و مجتہدین اور علمائے کرام و مشائخ عظام اور بڑے بڑے محققین اہل علم گزرے ہیں، آج بڑی بے باکی سے ان کی علمی و مذہبی تحقیقات کی تبلیغ کر دی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد و اعمال کے متعلق دماغوں کی کوٹھڑیوں میں شکوٰک و اعتراضات کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا دینی روحانی روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔“

نتیجہ کے اعتبار سے تقریباً یہی خدمت مودودی صاحب بھی انجام دے رہے ہیں۔ تجدید و احیائے دین کا خوشنام لیبل لگا کر جو زہر قاتل مودودی صاحب مسلمانوں کے گلے سے اتنا چاہتے ہیں اس کا پہلا اور فوری اثر تو یہ ہو گا کہ مسلمانوں کو صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے نہ مفسرین کرام پر اعتماد رہے گا اور نہ ہی محدثین حضرات کی شمار میں ہوں گے اور آئندہ مجتہدین و علمائے امت و مشائخ ملت میں سے کوئی بھی شکوٰک و اعتراضات کے تیروں سے نہیں بچ سکے گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ آج تک کی کتب و تفاسیر و احادیث اور کتب و فتاویٰ سب کی سب ناقابل انتہا برقرار پا جائیں گی۔

لیعنی صرف مودودی تفسیر، مودودی حدیث، مودودی فقہ، مودودی فتح راجح الوقت ہو۔ باقی سب کو دریائے شکوٰک و بحر اعتراضات میں غرق کر دیا جائے۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ اللّٰهُمَّ إِنَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
 مسلمان تاریخ کے ہر دور میں کسی نہ کسی اندر ورنی یا بیرونی فتنے سے دو چار ہوتے آئے ہیں اور ہمیشہ اہل حق خادمان دین نے حمایت دین کی تکوار سے فتوں کو موت کی نیند سلایا ہے۔ مودودی صاحب بھی بالارادہ یا بلا ارادہ امت کو ایک مستقل فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں (کاش کہ وہ موجودہ دور کے رجحانات پر نظر ثانی فرمائیتے) مگر الحمد للہ کہ آج بھی حق پرست علماء حمایت حق کے لیے موجود ہیں۔
 خوش قسمتی نے مجھ کو سیدنا الحترم استاذ مکرم شیخ التفسیر معدن علم و معرفت منبع رشد و پدایت حضرت مولانا احمد علی صاحب ادام اللہ برکاتہ امیر الجمیں خدام الدین لاہور کی زبان مبارک سے وہ اقتباسات سننے کا شرف حاصل ہوا جن کو حضرت مدظلہ نے مودودی صاحب کی کتابوں سے خود ہی اخذ فرمایا ہے اور آپ کے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے۔ یہ ان سمیات کے چند نمونے ہیں جن کو مودودی صاحب کے دارالشفاء سے دینی بیماریوں کے مریضوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔

ع جس کو سمجھتے تھے میجاوی قاتل نکلا

رسالہ کے مطالعہ سے معلوم ہو جائے گا کہ ”حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب“ کیا ہیں اور یہی رسالہ کا نام ہے۔
 مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامل یقین ہے کہ حضرت مسیح مسیح سے سرپا اخلاص اور خدا پرست علمائے دین کا قلم اخھالینے کے بعد اب فتنہ مودودیت کا بیڑا انشاء اللہ جلد سے جلد غرق ہو جائے گا۔ نیز امید ہے کہ یہ مختصر اور اق اہل بصیرت کی آنکھوں کے کھولنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح مسیح کو ہماری اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزاے خیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔

خاک پا علماء احقر الکونین محمد منظور حسین قاسمی
بجوری معتمد روزنامہ المجمعۃہ دہلی، ۳۰ جنوری ۱۹۵۲ء

۳۔ حضرت مولانا محمد ضیاء الحق صاحب (صدر مدرس جامعہ اشرفہ لاهور)

بندہ نے مودودی صاحب کی تحریرات بنگاہ النصار جہاں تک دیکھنے کا موقعہ ملا اور اتفاق ہوا دیکھیں اور نظر غازر کے بعد معلوم ہوا کہ:

”یہ شخص ایک نیا نقشہ اسلام کے نام سے رائج کرنا چاہتا ہے اور اس ترویج کے لیے انہوں نے صورت یہ سوچی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السَّلَامُ اور آئمہ مجتہدین رحیم اللہ تعالیٰ و دیگر فقہاء عظام سے لوگوں کو منتفر کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔“

اس لیے احقر اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں عرض رساہے کہ مودودی صاحب کی تفہیفات سے بچ کر رہیں تاکہ ان کے رنگ میں نہ رکنے جائیں۔ احقر نے حضرت مولانا و اولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی کا رسالہ ”حق پرست علماء کی مدد و دست سے ناراضگی کے اسباب“ ان سے ناہے۔ مجھے اس سے اتفاق ہے۔

محمد ضیاء الحق کان اللہ

۱۰ جلوی الاول ۱۷۳۴ صدر مدرس جامعہ اشرفہ لاهور

۳۔ اَمَّا الْجَاهِدُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يُثْمُ - وَقَاتِلُونَ
كلمة حق عند سلطان جائز مولانا و مقتدا حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ

صاحب بخاری

۵۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب (جالندھری ناظم اعلیٰ مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت ملتان

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کی کتب کے مندرجہ بالا حوالہ جات سے فی الواقع ایسے نتائج نکلتے ہیں جن سے اسلام کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے۔ فقط اللہ تعالیٰ اعلم

سید عطاء اللہ شاہ بخاری

محمد علی جalandھری عفاف اللہ عنہ
۳ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

۶۔ حضرت مولانا مطیع الحق صاحب دیوبندی

پاکستان ۱۹۲۵ء میں مخدوم العلماء حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مستقیم دارالعلوم دیوبند نے مودودی صاحب کی تالیفات کے مطالعہ کے بعد ایک سبسوت و طویل مضمون تحریر فرمایا تھا۔ جو بالاقساط روزنامہ "زمزم" میں شائع ہوتا رہا۔ اس میں موصوف محترم کی فراست و دور بینی نے (بفحوا نئے اتقوا من فراسہ المومن انه ینظر بنور الله تعالیٰ) مستقبل میں مودودی صاحب کے وجود کو اسلام کے لیے ایک عظیم الشان فتنہ قرار دیا تھا۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے مودودی صاحب کے عقائد اجتہاد بالرانے اور اجتماع امت کے خلاف رحمات کے متعلق احقر نے اور بھی چند رسائل اور اشتہارات دیکھے تھے اور پاکستان کے متعدد مقید رعازات علمائے کرام سے بھی..... مودودی صاحب کے اعمال و عقائد کے متعلق شکایات سنی تھیں۔

لیکن ان کی کتابوں کے ان اقتباسات سے جو مخدومی و مطاعی جناب حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی نے احقر کو سنائے نہایت افسوس اور صدمہ ہوا اور سابقہ معلومات کی پوری تائید و تصدیق ہو گئی۔

”احادیث صحیحہ کا انکار“، آقائے کائنات فخر موجودات سلطان الانبیاء والرسلین حضور خاتم النبیین ﷺ کی (خاکش بدھاں) تنقیص شان، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان محمد شین و اولیائے عظام رحمہم اللہ کی تکذیب و توہین، اسلام کے متفقہ و منقول عقائد کی تردید و تعلیط ایسے امور ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں ان سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ (اعاذنا اللہ تعالیٰ و جمیع المسلمين)

میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے عقائد رکھنے والا شخص کیوں کر کسی اسلامی جماعت کا قائد و امیر ہو سکتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقائد باطلہ سے محفوظ رکھے اور عقائد حقہ کا پابند بنا کر حضرات سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے طریقہ اینتہ پر گامزی کی سعادت سے نوازے۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مُطْبَعُ الْحَقِّ عَفْيٌ عَنِّهِ

۷۔ حضرت مولانا محمد صادق صاحب (خطیب مسجد پٹلیاں لوهاری

منڈی، لاہور)

احقر نے بعض حضرات علمائے کرام سے ناکہ موجودی صاحب ملک اہل سنت و الجماعت حقہ سے پھسل رہے ہیں۔ بلکہ حضور اکرم ﷺ اور اصحاب کرام و مجتهدین عظام و مجددین کرام سب پر حملے کرتے ہوئے کچھ نئی چیزیں ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ آخر ایک صاحب نے ”فتنه موجودت“ ایک رسالہ دکھایا لیکن

پوری طرح سے یقین نہ آیا۔ لیکن جب حضرت مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن خدام الدین سے اتفاق ملاقات ہوا تو آپ کی خدمت میں گزارش کی: «حضرت مولانا» مودودی صاحب کی تصانیف لے آئے اور پڑھ کر سنائیں۔ حرف بحرف صحیح پایا۔ اب عرض ہے کہ حضور اکرم ﷺ یا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم السَّلَامُ عَلَیْہِ السَّلَامُ عَلَیْہِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ یا عین کے متعلق جس شخص کا یہ عقیدہ ہوا سے مسلمان کملوانے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ چہ جائے کہ قائد اسلام بنے بعد امامان مجتہدین و مجددین کے حق میں توہین کے الفاظ استعمال کرنے یا سوء ظن ہونا خالی از فتن نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ «حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضی کے اسباب» پڑھ کر مودودی جماعت کو راہ راست پر آنے کی توفیق دے اور حضرت مولانا احمد علی صاحب کو اس کی جزاً خیر دے۔ آمین ثم آمین۔

لاشی محمد صادق، خطیب مسجد پٹلیاں لاہور لوہاری منڈی

۸۔ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب (خطیب جامع مسجد پرور ضلع

سیالکوٹ)

نحمدہ و نصلی علی امام الانبیاء و خاتم المرسلین احرقر نے رسالہ ہذا یعنی «حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضی کے اسباب» کو نہایت غور سے سن اور مطالعہ کیا: «واقعی مرزا یت کی طرح یہ بھی ایک فتنہ عظیم ہے۔ حضرت شیخ العصر مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن خدام الدین نے اطمینان حلت کے لیے کمال محنت سے

بروقت امت مسلمہ کو خطہ سے متباہ فرمایا فجز اہم اللہ تعالیٰ احسان
الْجَزَاءُ اللَّهُ تَعَالَى مُسْلِمَوْنَ كَوَاسْ قَدْرَهُ سَيْنَهُ كَيْ تَوْفِيقَ بَخْشَهُ۔ آمِنَ
 بشیر احمد عفی عنہ نقشبندی قادری
 خطیب مسجد جامع پرورد ضلع سیالکوٹ

۹۔ حضرت مولانا دوست محمد صاحب (درس مدرسہ اسلامیہ نوازیہ)

غوث پور تھیماں تحصیل کیروالا ضلع ملتان)

میں نے "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" جو مولانا احمد علی صاحب نے مرتب کیا ہے، "جس میں مودودی صاحب نے رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دین اسلام، مجددین اسلام، صوفیائے کرام اور علمائے اسلام کی دل کھوں کر توبین کی ہے" ان خیالات کے اظہار کے بعد انسان کا اپنا ایمان کب باقی رہ سکتا ہے۔

دوست محمد کان اللہ مدرسہ اسلامیہ نوازیہ

غوث پوری تھیماں ۶ شوال ۱۴۳۲ھ تحصیل کیروالا ضلع ملتان

۱۰۔ حضرت مولانا لال حسین اختر (رکن مجلس شوریٰ مجلس مرکزیہ)

تحفظ ختم نبوت ملتان)

جن حضرات نے استاذی و مخدومی مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی امیر انجمن خدام الدین لاہور کو قریب سے دیکھا ہے، ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمت قرآن و حدیث تبلیغ و حفاظت اسلام، ایثار و قربانی، اتباع سنت اور حصول رضائے الہی کے

لیے وقف رہا ہے۔ آپ کی ساری زندگی انکسار، تواضع، بے نفسی اور خاص شان درویشی لیے ہوئے گزری ہے۔ حفاظت اسلام کے سلسلہ میں آپ نے ہرنے فتنے کی سرکوبی کے لیے حتی المقدور کوشش فرمائی۔ چکڑ الیت، پرویزیت، خاکساریت، مرزاںیت سے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کی عظیم خدمات اظہر من الشس ہیں۔

حضرت مولانا نے مودودیت کی تردید پر قلم اٹھا کر انہم دینی ضرورت کو پورا کیا اور مسلمانان پاکستان کو اس دور کے ایک فتنہ عظیم سے متباہ فرمایا ہے۔

قارئین کرام پر اس رسالہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت مکشف ہو جائے گی کہ مودودی صاحب اسلامی عقائد کو بدلتے کی کوشش میں منہک ہیں۔ انہوں نے امریکن اور یورپین طرز پر ایک نئے نہ ہب کی بنیاد رکھی ہے۔ پونے چودہ سو سال کے محمدی اسلام اور مودودی صاحب کے امریکی طرز کے ماذر ان اسلام میں بعد المشرقین ہے۔ جس طرح رات اور دن آن واحد میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح محمدی اسلام اور مودودی اسلام ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مودودی صاحب نے اسلام کے نام پر ایک نئے گمراہ فرقہ کی بنیاد رکھی ہے۔ آئین اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مودودیت کا زہر دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رسالہ مودودیت کے زہر کے لیے تریاق کا کام دے گا۔

اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو جزائے خیر اور اشاعت و حفاظت اسلام کی پیش از پیش توفیق عطا فرمائے اور اس تصنیف کو ان لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے جو مودودی نہ ہب کونہ جانتے کی وجہ سے ان کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے کر صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔

احقر العباد لال حسین اختر، رکن مجلس شوریٰ

مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت پاکستان، ذی القعده ۱۴۳۷ھ مطابق ۲۹ جون ۱۹۵۵ء

۱۱۔ نور محمد صاحب

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد: بندہ قبل ازیں مودودی صاحب کا برداشت مقتضی تھا۔ یہاں تک خیال تھا کہ اگر دنیا میں کوئی جماعت رضائے اللہ کے لیے کام کر رہی ہے تو صرف اور صرف مودودی صاحب کی جماعت ہے۔

حسن اتفاق سے احقر کو قائم الشرک والبدعت و محی السنۃ، منع الرشد و الهدایت، و مفسر القرآن حضرت مولانا احمد علی صاحب متعنا اللہ تعالیٰ بطول بقاء کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے رسالہ ہذا کو دیکھاتے حقیقت مودودیت آشکارا ہوئی اور آنکھیں کھلیں کہ یہ اسلام کو پیش نہیں کر رہے بلکہ اسلام محمدی کو مٹا کر ایک نیا اسلام رانج کرنا چاہتے ہیں۔
و دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلک محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ان کے عقائد فاسدہ سے بچائے اور حضرت مولانا کو جزاے خیر عطا فرمائے۔

احقر الانام نور محمد مقام کھدوال
ڈاک خانہ لمبواںی تحصیل فتح جنگ ضلع کمپلپور (انک)

۱۲۔ غلام رسول بہادری

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بندہ نے شیخ التفسیر والحدیث حضرت قبلہ استاذی المکرم والمحترم حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی کی زبان مبارک سے اس رسالہ مسمی بـ "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضی کے اسباب" کا سارا مضمون نہ اور یہی

ضمون بندہ نے بھی کاتب کے پاس بیٹھ کر پڑھا۔ اس رسالہ کو دیکھنے سے پہلے میرا زیادہ رجحان مودودی صاحب کے نسب العین کی طرف تھا اور بت اچھا اور خالص سمجھتا تھا کیوں کہ یہ اسلام کا نام لیتا تھا۔ جب یہ رسالہ دیکھا اور غور سے پڑھا تو بندہ کو سمجھ آیا کہ ---- ”مودودی صاحب ہمیں (سب مسلمانوں کو) کفر کے گزٹھے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور امریکہ (جو انگریز ہیں) کے قبیع بنانا چاہتے ہیں اور جو ہمارے دین اسلام نبی کریم ﷺ کے اوپر نازل ہوا تھا اور اب تک وہ دین نبوی جاری ہے، اس کو مٹانا چاہتے ہیں اور اس کی تبحی کرننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل شدہ مسلمانوں کے پاس نعمت ہے اور مودودی صاحب ہمیں اس نعمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو گویا مسلمانوں کے لیے مودودی صاحب کا لہر پر ایک فتنہ ہے۔ لہذا اس فتنہ کو دفع کرنے اور مسلمانوں کو اس فتنہ سے بچانے کے لیے حضرت مولانا موصوف مدظلہ العالی نے بروقت قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے اور جزاۓ خیر عطا فرمائے۔“ (آمین ثم آمین)

اور کترین یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو فتنہ مودودیت سے بچائے اور حضرت استاذی صاحب حضرت مولانا کی زندگی بسلامت دراز فرمادے۔ آمین۔ اس لیے کہ ہم نے اس رسالہ کو دیکھنے سے (جس میں پورے حوالہ جات مودودی صاحب کی کتابوں سے تحریر ہیں اور پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے) اپنے آپ کو اس فتنہ سے بچایا۔ یہ اللہ کا افضل ہے کہ ہمارے لیے یہ سب بنا دیا ہے۔ فقط

خادم القوم احقق غلام رسول بہادری بقلم خود
خاص بہادر والہ ذاکر خانہ راجہ رام، تحصیل شجاع آباد

۱۳۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

میں نے جناب شیخ اتفاقیر حضرت مولانا احمد علی صاحب مذکورہ العالی کی زبان سے رسالہ "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" کے اقتباسات کو سا جو درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تبلیغ حق کی جزاۓ خیر دے۔ آمین۔

عموماً تمام مسلمانوں کو فتنہ حاضرہ سے محفوظ رکھئے اور خصوصاً مودودی صاحب اور ان کی جماعت کو بدایت کی توفیق عطا فرمائے۔

ناچیز خاکپائے علمائے کرام، حافظ محمد وحید اللہ خاں مقام ڈاگ ڈاک خانہ سید و شریف علاقہ نیک پنجیل ریاست سوات، صوبہ سرحد پاکستان

۱۴۔ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

میں نے ان اقتباسات کی تحقیق کی ہے جو مودودی صاحب کی کتب سے مولانا احمد علی صاحب نے اخذ کیے ہیں۔ اب جو رسالہ کی صورت میں شائع ہو رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو اس سے بھی زیادہ باطل کے مٹانے کی توفیق دے۔

سید محمد ضلع پونچھ، بمقام سہڑی چوہانا، تحصیل حوالی

۱۵۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب نے وہ تمام بیانات مع حوالہ جات کے پڑھ کر سنائے، جن کا اظہار مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، جن سے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد اسلام سے اٹھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کے اقوال پر اعتقاد نہیں رہتا۔ اس لیے میں رسالہ مسی "حق پرست علماء کرام کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب سے مکمل طور پر متفق ہو کر مولانا صاحب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا رخیر کا اجر عظیم عطا فرمائے۔

احقر عبد الشکور، ریاست صوات، مقام چار باغ

۱۶۔ رسالہ "حق پرست علماء کرام کا مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" میں نے حضرت شیخ التفسیر محی الدین عارف باللہ جناب حضرت مولانا احمد علی صاحب مذکولہ العالی کی زبان مبارک سے سنا اور محترم موصوف نے مودودی صاحب کی تصنیف کے پورے پورے حوالے دکھائے کہ:

"جس میں جناب مودودی صاحب نے احادیث نبوی و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی و آئسہ مجتہدین کی توهین کی ہے اور بیت اللہ شریف کی توهین کی ہے۔ لہذا اگر مودودی صاحب کا عقیدہ یہی رہے، توبہ نہ کریں تو ایمان بکشکل ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مودودی صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اور رسالہ مذکورہ کے ساتھ میرااتفاق ہے"۔

سعید الرحمن، ضلع مردان، تحصیل صوابی
مقام وڈاک خانہ کوٹھہ محلہ غلام خیل

١٧۔ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ

چونکہ مودودی صاحب کی باتیں ملمع ہونے کی وجہ سے عوامِ الناس کیا بلکہ اکثر علماء کرام غیر عالم بالحقیقت شکار ہوتے ہیں اور یہ زہر شکل تریاق میں پھیلتا رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو دینِ حق کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ

معرفت امیر انجمن قامع البدعت و الحیثیت مفسر قرآن جناب مولانا احمد علی صاحب دام اللہ فیوضہ علینا اس کی حقیقت کو واضح فرمایا اور ہمیں معلوم ہوا کہ جو اس رسالہ میں مضمون ہے وہ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو اس کی جزا فی الدارین خیر الجزاء نصیب فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کی اس سیلاب میں امداد فرمائی کہ حقیقت مودودیت ظاہر فرمائی۔

كاتب الحروف احقق میر احمد، موضع قدرہ علاقہ گرون
تحصیل صوابی، ضلع مردانہ مستند دارالعلوم حقانیہ سید و شریف

١٨۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بندہ تصدیق کرتا ہے کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب شیخ التفسیر نے جو رسالہ لکھا ہے، حرف بحرف صحیح ہے۔ یہ فتنہ اظہر من الشمس ہو چکا ہے۔ مودودی صاحب اسلامی پاجامہ پہن کر محمدی اسلام کی تنجیٰ کر کے مودودی اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ خود ان کا دعویٰ ہے کہ ”میں جو اسلام پیش کر رہا ہوں

آج تک کسی نے پیش نہیں کیا۔ تجربے سے ثابت ہے کہ مودودی صاحب اور ان کے متبوعین کا مزاج عالی ہے کہ انی جماعت کو صلح اور عروج میں تصور کرتے ہیں اور غیر مودودی کو غیر صلح اور تزلیل میں تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ ولی اللہ کیوں نہ ہواں کو متعقب اور معاند سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کی عصمت ان سے محفوظ نہیں۔ جو کہ قرآن و حدیث و اجماع سے مسلسلہ مسئلہ ہے۔

ترجم کہ بکعبہ نرسی اے اعرابی

آن راہ کہ تو میروی برکتان است
میں تمام محبان اسلام کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر اپنے اسلام
کو اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو مودودیت سے احتراز کریں اور جتنا ہو سکے
اس کی تردید میں وقت صرف کریں۔ باطنی امراض مملک ہوتے ہیں خفی پر
ہمارے ایمان کو سلب کرنے میں کوشش ہیں۔ فانہم

نگ امت علی مرادِ موطن ڈیرہ غازی خاں
تحصیل راجن پور، مقام پی بعد ارائیں

۹۔ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اما بعد! میں نے جناب قبلہ محترم رئیس المفسرین وزبدۃ العارفین مولانا احمد
علی صاحب مدظلہ العالی کے مودودی صاحب کے متعلق رسالہ "حق پرست علماء
کی مودودیت سے ناراضی کے اسباب" سن کر اس بات کا یقین ہوا کہ:

"مودودی صاحب اسلامی رنگ میں ضلالت اور گمراہی کی

اشاعت کر رہے ہیں اور دشمنان اسلام کو اس عالمگیر نہ ہب پر نکتہ

چینی کا موقع دے رہے ہیں۔

لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حضرت مولانا صاحب کی یہ مدلل تحریرات پیش نظر رکھتے ہوئے اس فتنہ سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی حتی الوضع اس موت کے گڑھ سے نکالے۔

احقر الناس محمد طاہر بقلم خود
موضع المغایلیہ تحصیل صوابی ضلع مردان

۲۰۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد! رسالہ "حق پرست علماء کی مودودیت سے نارانچگی کے اسbab" اس کے مضامین کی بندہ تصدیق کرتا ہے کہ واقعی مودودی صاحب کا مسلک وہ ہے جو مسلمانوں کو کفر کے گڑھے میں گرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے اور مودودی صاحب کو ہدایت کے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

احقر باغ علی عفی عنہ، بقلم خود ضلع لمان
تحصیل کبیروالہ، بمقام کوٹ والہ ذاک خانہ چک حیدر آباد

۲۱۔ بندہ نے حضرت شیخ التفسیر و منیع رشد وہدایت مولانا احمد علی صاحب کی زبان مبارک سے رسالہ مودودیت سے نارانچگی کے اسbab) کے اقتباسات نے تو متوجہ ہوا کہ ظاہر میں اسلام کا نام ہے اور حقیقت میں کفر کی خلک شدہ

کھیتی کو پانی دے کر ترو تازہ کرنا ہے۔

مسلمان آدمی جو دل و جان سے اسلام کا جان شار ہے، اس کی زبان سے یہ
بھی صادر نہیں ہو سکتے۔ واللہ مجھے تو اس سے نفاق کی بو آرہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو اس سے بچائے۔

صلع ملتان تحصیل کبیر والا، ذاک خانہ سالار و اہن کہنے
موضع کوڈے دہی محبت تر گز، احقر الانام الہ بخش بقلم خود

۲۲۔ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

”حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب“ بندہ نے مودودی
صاحب کے اقتباسات کو حضرت رئیس المفسرین حضرت مولانا احمد علی صاحب
امیر الجمیں خدام الدین کی زبان مبارک سے نہیں ہے تو معلوم ہوا:

”کہ اس خیال کا آدمی مومنین اہل سنت والجماعت کے زمرہ
سے خارج اور مبتدع اور مخدود زندیق ہے۔“ (جنت اللہ البالغہ باب
طبقات الحدیث (انج))

میں تائید کرتا ہوں کہ اس رسالہ میں جو کچھ ہے، صحیح ہے۔

(مولوی) سمندر خاں، صلع ہزارہ تحصیل مانسہرہ، موضع تبا

۲۳۔ باسمہ سبحانہ

برادر ان اسلام! ہمارے پیغمبر ابادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا فرمان
ہے کہ ”دیکھ لودین کس سے اخذ کر رہے ہو خدا پرست ہے کہ ہوا پرست
ہے۔“ ارشاد ایزدی موبیہ ہے:

وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ اور
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فِرْطًا ۝

ہر نمازی نماز خمسہ میں اس سبق کو دھرا تا ہے:
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

یعنی دین انبیاء، شداء، صدقین، صالحین کی پیروی اور محبت کا نام ہے مگر مودودی صاحب تمام اسلاف پر تنقید بیباکانہ کر کے تجدید اسلام کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا تمام اہل حق کو ان کی گستاخانہ اور ہتھ آمیز تصنیفات سے اعراض کر کے علمائے حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَاسْتَأْلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

چنانچہ استاذی المکرم افعیں البیان مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی نے وہ عبارات مکرات فراہم کر کے برائے خیر خواہی خاص و عام نہیاں فرمادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رسالہ کو نافع بنا دے اور جماعت مودودی کو اس کے ذریعہ سے راہ راستی پر آنے کی توفیق بخشدے۔ آمين ثم آمين۔ خادم العلماء اللئی بخش متوفی بپڑی للہ
صلع گجرات، تحصیل چھالیہ، پنجاب

۲۴۔ بسم اللہ اکتب

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِہِ الْکَرِیمِ
 اما بعد أَصْدَقَ هُذُو الْمَضَانِمِينَ كُلُّهَا الَّتِی الْفَهَا سَيِّدُ
 الْفَاضِلَّ وَ مُفْسِرُ الْقُرْآنِ مَوْلَانَا أَخْمَدُ عَلٰی صَاحِبِ
 مَدْظُلَةِ الْعَالَى فِی الرِّسَالَةِ الْمَوْسُومَهُ "حق پرست
 علماء کی مورودیت سے ناراضگی کے اسباب" و انا
 اقول "من يصاحب بالموحدودی فهو متبع غير سبیل
 الْمُؤْمِنِینَ" وَلِلَّهِ الدِّرَةُ لِمُؤْلِفِهَا

تراب الارقام عبد السمار علامہ جامعہ
 عباسیہ بہاول پور سکنہ چک لوہاراں

۲۵۔ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِہِ الْکَرِیمِ

میں نے رئیس المفسرین الحاج امیر الجمیں خدام الدین مولانا احمد علی صاحب
 مدظلہ اللہ تعالیٰ کی قطوار تقریر جو بعد میں رسالہ "حق پرست علماء کی مورودیت
 سے ناراضگی کے اسباب" پر شائع ہوا پڑھا اور اس کے اقتباسات خود مولانا مدظلہ
 العالی سے ہے۔ پڑھنے اور سننے کے بعد معلوم ہوا کہ مولف نے اس آڑے
 وقت میں تمام مسلمانوں پر جو رحم فرمایا ایک صحیح راستہ کی طرف توجہ دلاتی، وہ
 واقعی قاتل صد شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مولف کو جزائے خیر عطا فرمایا کردار ای عمر
 نصیب فرمادیں۔ آمین۔

قاضی (مولوی) عبدالرحیم عفی عنہ
 (فضل جامعہ اسلامیہ) مردان اشر

۲۶۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ہم مندرجہ ذیل دستخط کرنے والوں نے مولانا احمد علی صاحب "مدظلہ امیر انجمن خدام الدین سے ان کے مرتبہ رسالہ "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" کو بغور سنا اور سننے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ:

"جو شخص سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السَّلَامُ عَلَیْہِ السَّلَامُ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ عَلَیْہِمْ السَّلَامُ اعمین اور آئندہ مجتہدین اور مجددین حضرات اور صحابہ کی توبین کرے، ایسے شخص کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل رکھنا اسلام کی توبین ہے۔ (اعاذنا لله منه)

اسماء المویدین

- ۲۶۔ احقر العباد سراج احمد دین پوری ریاست بہاول پور
 - ۲۷۔ عبدالرحمن شاہ امروٹ شریف ضلع سکھر سندھ
 - ۲۸۔ محمد حسین عفی عنہ تھری پچانی، ضلع سکھر سندھ
 - ۲۹۔ مولوی محمد ہارون تھری پچانی، ضلع سکھر سندھ
 - ۳۰۔ العبد عبد الکریم تھری پچانی، ضلع سکھر سندھ
 - ۳۱۔ عبد الواحد تھری پچانی، ضلع سکھر سندھ
 - ۳۲۔ فقیر عبد الشکور دین پور شریف ریاست بہاول پور
 - ۳۳۔ حاجی میر محمد ضلع جیکب آباد ٹھل مراد پور
-

۳۴۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى

اما بعد! احقر نے رسالہ "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" کے مضامین کا مطالعہ کیا اور عالم شریعت ہادی طریقت شیخ التفسیر الحاج

جناب مولانا مولوی احمد علی صاحب دام ظلّم العالی و دامت برکاتہم امیر الجمیں خدام الدین کی زبان مبارک سے مودودی صاحب کی کتب کے اقتباسات نے جن کے حوالہ جات کو من و عن صحیح پایا۔ ہر شخص اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کتنے فتنے دنیا میں ظاہر ہوئے اور باطل کی ساری وقتیں سست کر ان فتنوں کی پشت پناہی کرتی رہیں مگر غلبہ حق کو ہی رہا اور اس وقت کے موجودہ حق پرست علماء کرام نے اس فتنے کا مقابلہ کر کے اپنے حقیقی جائشیں اور خادم اسلام ہونے کا ثبوت دیا۔ جس سے آج تاریخ کے اوراق مزین ہیں۔

چنانچہ علماء حق نے سرکوبی فرمائی کہ دین محمدی کا پرچم بلند فرمایا جن میں محی السنۃ، قامع البدعۃ جناب مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جنہوں نے وقت کے تقاضوں کو محسوس فرماتے ہوئے ہر فتنہ کا استھان فرمایا۔ فتنہ خاکساریت کا مجاہد اور محققانہ طور پر تحریر و تقریر سے مقابلہ فرمایا اور وہ ان کے خلوص کی برکت سے ایسا مٹا ہے کہ آج اس کا کوئی نام لیوانہیں اور فتنہ مرزائیت کے مقابلہ میں تحریر و تقریر کے ذریعہ اسلام کی وہ خدمت سرانجام دی جس سے تاریخ کے اوراق درخشاں رہیں گے کہ علالت طبعی کے باوجود اس فتنہ کے خاتمه کے لیے تمام چیزوں کو خیر باد کر کر جیل خانہ کی ننگ و تاریک کو ٹھیڑیاں اختیار فرمائیں۔

اور اب عین اس وقت جبکہ ہر طرف سے فتنوں کا سیلا ب عظیم آ رہا ہے، فتنہ مودودیت بھی نکل آیا اور یہ حقیقت ہے کہ یہ فتنہ بہت برا خطرناک ہے جو اسلام کا البارہ اوڑھ کر اسلام لی بنیادیں اکھیر رہا ہے اور اس کا قائد مسلمان کملانے کے باوجود نادہ فوج سادہ دل مسلمانوں کو نعمتی اسلام سے بیزار و تنفر کر کے گمراہی

اور بے دینی کی طرف لے جا رہا ہے۔ موصوف مدظلہ نے کمی فرصت کے باوجود اس فتنہ کی روک تھام اور مسلمانوں کی بیداری کے لیے رسالہ تصنیف فرمائی اسلام کی بست بڑی خدمت سرانجام دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسامی جمیل پر ثواب جزیل عطا فرمادے۔ آمین۔

اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مدظلہ کو دیرپا اسلامت رکھے اور مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے عزائم اور خدمات اسلام کو بام عروج تک پہنچا سکیں۔ آمین۔

مجھے اس رسالہ کے جمیع مضامین سے اتفاق ہے اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس رسالہ کو خرید کر خود پڑھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی مطالعہ کر کے مودودی اسلام سے متاثر نہ ہوتے ہوئے محمدی اسلام جو پونے چودہ سو سال سے آرہا ہے، پر قائم ہوں۔ فقط والسلام مع الراکرام۔

احقر عبد الغفور عفا اللہ عنہ، ڈاک خانہ عاشق پور

لوڑی تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان۔

۲۵۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

رسالہ تردید مودودیت کے چند اور اق زیر نظر ہوئے۔ واقعی بناؤں و ظاہرداری، طرفداری و دنیاداری کا اسلام اصلی قدرتی و فطری اسلام سے کوسوں دور ہے بلکہ بعد من العلم و النظر لذای ناچیز ہر بیان مودودیت کے عقائد بالظلمہ بحوالہ جات، توہین کعبہ کرمہ و حدیث الطہ وغیرہ امورات شرعیہ حقیہ قلبی تصرف جو کہ اظہر من الشمس ہے، رقم کیے گئے ہیں۔

رسالہ بڑا میں جو کہ یمن غ و شہزاد کی طرح پرندوں میں شہنشاہ ہے جس کو

جناب قبلہ مولانا احمد علی صاحب امام اللہ برکاتہم نے نہایت جانفشاںی و مطمئن کرنے اہل اسلام بلکہ تعاون ایمان عوام الناس کے لیے مرتب فرمایا ہے۔ واقعی اس کے مطالعہ سے اور غور و خوض کرنے پر عمل کرنے سے ایمان کا پودا ہر ابھرا اور شمردار ہو جائے گا۔ بذاتِ عندی

احقر محمد اسماعیل قاضی گرد اور حلقة کبیر والا

ڈاک خانہ چک حیدر آباد مقام کوٹ والہ ملتان

۳۶۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

”حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضی کے اسباب“ بندہ نے مولائی و مرشدی حضرت مولانا احمد علی صاحب مفسر القرآن کی زبان مبارک سے مودودی صاحب کی کتابوں کے اقتباسات نے جو کہ اسلام کے خلاف زہر پھیلایا ہے۔ اسلام کے نام سے اور دینِ محمدی علیہ التحیات والتسیمات کے ہر ستون کو گرا رہا ہے۔ مجھے حضرت مولائی مکرمی صاحب سے یقینی اتحاد ہے اور جو کچھ تحریر فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے۔

بندہ راجی الرحمة محمد اسحاق ہزاروی مقام ترکڑی بالا

ڈاک خانہ صابر شاہ تحصیل مانسہرہ ضلع ہزارہ

۳۷۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

افتتاب امد دلیل افتاب

گر دلیل باید از وہ رومنتاب

آج پیشگاہ، عالی جاہ، فیض پناہ اعلیٰ حضرت والد روحانی دام ^{یعنی} نعمت نے اپنی

زبان مبارک سے مودودی صاحب کی ان عبارتوں کو پڑھ کر سنا یا ”جو مسلمان کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔“

لہذا میں اپنی سعادت اور نجات کے لیے ہدیل سے اقرار کرتا ہوں کہ جو حضرت دام فیضم نے رسالہ ”حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسbab“ تحریر فرمایا ہے اس میں مودودی صاحب کی عبارتوں میں جو پوشیدہ زہر تھی، اس کو دکھا کر مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد و محی رکھنے کے لیے شفائے اعظم موجود ہے۔ خدا تمام مسلمانوں کو اس نسخے سے شفائی بخشے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزاۓ خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

نجات کا طالب عبدالرحیم مظفر آبادی
مقام گوہاڑی ضلع مظفر آباد

۳۸۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

”حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسbab“ میں نے اس رسالے کو اول سے آخر تک مطالعہ کیا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی نے جو اقتباسات کتب مودودی سے نقل فرمائے ہیں واقعی قابل گرفت ہیں۔ حضرت مولانا صاحب نے جو روشنی اس پر ڈالی ہے، میں ہدیل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔

احقر محمد رفیق، مقام و ذاک خانہ امیلیہ
ضلع مردان، تحصیل صوابی

۲۹۔ الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفوا

اما بعد

مولانا مودودی صاحب نے اسلام کے مٹانے کی جو کوشش کی ہے، وہ کسی
اہل حق سے پوشیدہ نہیں لیکن فرمان الٰہی:

**يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُمَّ
مُتَمِّنُ نُورِهِ وَلَوْكَرَهُ الْكَافِرُونَ.**

کے مطابق دین الٰہ زندہ تابندہ ہے اور رہے گا اور مصرع "ہو جائیں گے
ہاں خاک بجھانے والے" چنانچہ اس فتنہ مودودیت سے عوام الناس کو آگاہ کرنے
کے لیے اللہ جل مجده نے اس وقت کے ایک بہترین بندہ حضرت العلامہ شیخ
التفیسر والحدیث مولانا احمد علی صاحب مدظلہ کو القاء کیا، جس نے مودودی صاحب
کے کفریات کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور ان کی عبارتوں سے ثابت کر کے دکھایا
کہ مودودی صاحب ایک نیا اسلام لے آنا چاہتے ہیں جس طرح کہ مرتضیٰ آغا
چاہتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس بے دین جماعت سے احتراز کرنا چاہیے اور
مولانا موصوف کی حق بیانی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں کا
ایک ذمہ دار اخبار "ایشیا" کو بھی کہنا پڑا کہ مولانا صاحب جو کچھ فرمائے ہے ہیں وہ
حوالے نہیں ہیں

الفضل ما شهدت به الاعداء

پروردگار مولانا موصوف کو جزاۓ خیر عطا فرمائے اور آئندہ کے لیے اپنے
دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين۔

بندہ محمد رحمت اللہ محروح عفی عنہ

مقام تنگی نصرت زنی تحصیل چار سدہ پشاور

۲۰۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حضرت مولانا احمد علی صاحب نے وہ تمام مضامین بعد حوالہ جات کے پڑھ کر سنائے جن کا اظہار مودودی صاحب نے اپنی مصنفات میں تحریر فرمائے ہیں جن سے علمائے امت و آئمہ مجتہدین سے لے کر انیاء علیم السلام تک کی توبین نکلتی ہے اور اسلام سے عوام الناس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے میں حضرت مولانا احمد علی صاحب کے مصنفہ رسالہ مسی با "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" سے مکمل طور پر متفق ہو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا احمد علی صاحب کو اس کا رثواب کی جزاۓ خیر عطا فرمائے۔

احقر معین الدین عغی عنہ
صلع بنوں مقام ولو خیل

۲۱۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بندہ نے حضرت مولانا مرشدی و سیدی مفسر القرآن مجده وقت محی السنہ حضرت مولانا احمد علی صاحب دام اللہ برکاتہم و فیوضاتہم الی یوم القیام سے مودودی صاحب کی کتابوں کے اقتباسات سن لیے جو کہ اسلام کے خلاف اور روحانیت کو تباہ کرنے کی بنیزنه زہر قاتل ہیں اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔

لہذا علماء حق نے خصوصاً حضرت مولانا سیدی و مرشدی مولانا احمد علی صاحب بد نظر العالی نے مودودی صاحب کے بارے میں جو فتویٰ اختیار فرمایا ہے، میں بھی اس کا ہم خیال و متفق ہوں۔

خاکسار عباس خاں، صلع بنوں، تحصیل بنوں
علاقہ چمہ، گڑھی میش نیل کونکہ سورنگی

۳۲۔ باسمہ تعالیٰ

احقر نے حضرت مخدوم العلماء منع الشریعت مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن خدام الدین لاہور کی زبان سے مودودی صاحب کے متعلق اقتباسات نے اور مطالعیہ بھی کیا ہے جو سراسر صحیح ہے۔ اس سے میرا تقاض ہے اور ”حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضکی کے اسباب“ جیسے رسالہ کی وقتی طور پر اہم ضرورت تھی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزاً نے خیر عطا فرمائے اور مودودی صاحب اور اس کے متبوعین کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔

احقر بندہ محمد یعقوب صوبہ سرحد ضلع بنوں
ڈاک خانہ غوری والہ ساکن پیر ولی شاہ دخلی مشی خیل

۳۳۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

”حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضکی کے اسباب“ سمعت ناقص اہم الجماعة من ثقاۃ اهل السنۃ والجماعۃ مراراً حتی شفیت و ازلت ظنی و تردادی بمطالعة الاقساط الشاعیة فی یوم ”نوائی باکستان من اخیر شهر شعبان من جانب رئیس المحققین فہیم العالمین زبدۃ المفسرین قدوة السالکین استاذ العلماء فی الشرق و الغرب حضرت مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن خدام الدین شیرانوالہ شہر لاہور فطالعته بنفسی

وَاوَصِيكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ... بِطَالِعَةٍ هَذِهِ الْاِقْسَاطِ
الْمُجْمُوعَةِ الْمُسَمَّةِ بِاسْمِ "حَقٍّ" پُرست علماء کی
مودودیت سے ناراضگی کی اسباب " اللَّهُمَّ انْصُرْ مِنْ نَصْرَ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و
جَعَلْنَا مِنْهُمْ وَأَخْذَلْنَا مِنْ خَذْلِ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ

الْعَبْدُ الرَّاجِيُّ إِلَى رَحْمَةِ رَبِّ الْمَنَانِ مُحَمَّدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَفْيُ عَنْهُ
الْمَيْدَانِ وَطَنَ الدِّيرِ وَرِيَاستِ دَانِيَالِ قَرِيهِ

٢٣۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت علامہ مولانا موصوف باوصاف کثیرہ احمد علی صاحب دام اللہ برکاتہ
نے جو کچھ مودودی صاحب کے متعلق تحریر فرمایا، بالکل صحیح ہے۔ میں نے
حضرت موصوف سے مولانا مودودی صاحب کے اقتباسات سے اور میں اس نتیجے
پر پہنچا:

”مودودی صاحب کے نزدیک حدیث اجماع امت قیاس کوئی
قابل قبول نہیں تو قرآن کریم سے بطريق اولی انکار ہوا۔ ایسا شخص
جس کا ظاہر یہ بل اسلام کا ہو اور در پرده تماں دین کا انکار ہو، یہ قائد
منافق ہے۔ اس کا ثہکانا اسفل السلفین ہے اور جو اس کا پوری طرح
ہم خیال ہو ظاہر اور بالنا اس کا بھی یہی حکم ہے۔

حافظ غلام سرور ضلع کٹلپور
ڈاک خانہ سلیم خان مقام اصغر محلہ غبی

٢٥۔ الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

حضرت العلامہ الفقہاء شیخ التفسیر والحدیث نے فتنہ مودودیت کے بارے میں جن مدلل اور باحوالہ جات عبارتوں سے صفحہ کاغذ کو زینت بخشی ہے بندہ نے اول سے آخر تک ہر نظر غائر مطالعہ کیا۔ سراسر حق پر منی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مبتدع اور عظیم الشان فتنہ سے بچنا چاہیے اور الحق یعلوا ولا یعلیٰ علیہ کے ماخت اب یہ خطرناک جماعت بھولے بھالے مسلمانوں کو دام تزویر میں نہیں پھنسائیں گے اور خدا کرے کہ اپنے اس عقائد سے توبہ تائب ہو جائیں۔

بندہ محمد فاضل مقام تبرائی بیان
تحصیل و ضلع پشاور

٣٦۔ حامداً ومصلیاً

جاتے حضرت مولانا استاذنا الحمد علی صاحب دامت برکاتہم جو رسالہ مولفہ مسمی "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضی کے اسباب" شائع ہوا۔ اس کے اقتباسات سن کر ازاد خوشی حاصل ہوئی کہ مولانا مrtle العالی نے بروقت مسلمانوں کی راہنمائی کر کے صحیح راستہ کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ مولف کو عمر دراز نصیب فرمائیں۔

افضل جمل ضلع مردان، سکنہ بختی
ڈاک خانہ بختی، مسجد فضل خالق

٢٤۔ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

حق پرست علماء کی نفرت مودودیت سے اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ جب میں نے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب کے شائع کردہ مضامین باحوالہ کو مطالعہ کیا اور حضرت کی زبان سے بھی سناؤ معلوم ہوا کہ: "مودودیت کا بھی دنیا میں ایک عظیم الشان فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اور یہ ایسا فتنہ ہے جو اسلام کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ لہذا مسلمان کا فرض ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان و اسلام کو بچانے کے لیے "حق پرست علماء اور صحابہ اور سلف اور مجتہدین کی دامن گیری سے غافل نہ رہیں اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کیونکہ یہ ایک اسلامی نام میں رونما ہوا ہے۔ تو اس لیے اس میں لوگ نداو اقیقت کی وجہ سے فریفہت ہو کر داخل ہوتے ہیں"۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا اور نہ میں اتباع حق کی توفیق عطا فرم۔

بحر العلوم۔ الصواتی۔ اچکیسری

٢٨۔ **نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ**

"حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" سمعت نقائص هذه الجماعة من ثقافت اهل السنة والجماعات مراداً حتى شفیقت وازلت ظنی و ترددی بمطالعته۔ الاقساط اشاعۃ فی یوم "نوائی باکستان" من اخیر شهر شعبان من جانب رئیس المحققین فہیم العالمین

حضرت مولانا احمد علی امیر انجمن خدام الدین
شیرانوالہ لاہور

فطالعته بنفسی واوصیکم ایها المؤمنون بمطالعة
هذه المجموعة المسمى باسم "حق پرست علماء کی
مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" بہذه الرسالہ
بندہ فیض الرحمن، ضلع ہزارہ، تحصیل مانرو
مقام بانی براستہ اوگی علاقہ تکری

۴۹۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد اصدق هذه المضامين كلها التي أَفْهَا
سیدنا الفاضل حضرت مولانا احمد علی صاحب کے جو
مضامین پرمیں نے نظرِ الہی ہے تو وہ حوالے بالکل صحیح ہیں جو حضرت مولانا نے
مودودیت کی کتب سے نقل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو حق پر چلنے کی اور باطل کو
ماننے کی طاقت عطا فرمائے۔ آئین اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔

(مولوی) محمد شفیع عفی عنہ، ضلع پونچھ

ڈاک خانہ پونچھ بمقام حرمی چوہانہ تحصیل جویں

۵۰۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ہمیشہ باطل جماعتیں اسلام کے نام پر ہی اسلام کی بیخ کنی کے لیے اٹھتی رہی
ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے کسی نہ کسی مقبول بندے کے ذریعے ان

جماعتوں کی سرکوبی فرماتے رہے ہیں تاکہ باطل کا بطلان واضح ہو اور حق کھل کر سامنے آجائے۔

ہمارے زمانہ میں مودودی ازم کے مقابلہ میں اس خدمت کے لیے حضرت اقدس شیخ التفسیر مقدم العلاماء مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے۔ جس وقت کہ مودودی ازم جماعت اسلامی کے روپ میں اسلام کے نام پر اسلام کی بنیادوں کو گرانے کے لیے اٹھا اور وقت کے مغادر پرست افراد اور غرض مند جماعتیں انہاد ہند اس کی دعوت پر بلیک کہہ رہی تھیں اور مخلصین کے ایمان متزلزل ہو رہے تھے تو حضرت اقدس مولانا احمد علی صاحب نے مودودیت کے دجل و فریب کے بھانڈے کو چورا ہے میں پھوڑ دیا۔ گمراہی کے بڑھتے ہوئے سیلاپ پر بند لگادیا۔

حضرت مولانا یے محترم کے مودودیت کے مسئلہ پر مضامین عشرہ پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سید زاد عالم نبی اکرم ﷺ جس دعوت کو لے کر آئے تھے، مودودی کے نئے نہب فکر کو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ مودودی پارٹی اسلام اور اکابر اسلام حتیٰ کہ خدا اور رسول کی ذات پر بے لگ اور بے باک تبصرہ کرنے والی جماعت ہے جو اسلام اور ملت اسلام پر کو بدنام کر کے ایک نئے قسم کے نہبی اقتدار اور نہبی اقتدار کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے۔

انیں الرحمن لدھیانوی خطیب مسجد درسے والی
(فاضل مظاہر علوم سارنپور) محلہ خالصہ کالج فیصل آباد

۵۱۔ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب (مفتی و مدرس خیر المدارس میلان)

۵۲۔ حضرت مولانا عبد الحق صاحب (مسئم دار العلوم حقوقیہ اکونڈہ ننگ)

۵۳۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (مہتمم مدرسہ قاسم العلوم ملتان)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

المابعد! شیخ التفسیر مخدوم العلماء حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی کی تصنیف "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" کے مضامین ہمارے مطالعہ میں آئے۔ ہم ان مضامین کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی نے جو مودودی پر گرفتیں فرمائی ہیں، وہ صحیح ہیں۔ واقعی مودودی صاحب نے ایسی پوزیشن اختیار کر لی ہے:

"وہ ایک جدید فرقہ کے بانی اور نئے اسلام کے داعی ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس مقام کو خود تسلیم فرمایا ہے۔

(اخبار تسمیم، جلد ۸، ۲۰ جون ۱۹۵۵ء)

اس کے علاوہ اس جماعت نے دو متحارب نظریوں کے درمیان صحیح اسلام کو قابل عمل صورت میں پیش کر کے وہ راہ اعتدال فراہم کی ہے، جس میں جمع ہو کر نظریات کا تصادم ہو سکتا ہے۔ مولانا نے کہا: "ہم غالباً اسلام پیش کرتے ہیں مگر قدامت پسند گروہ کی طرح نہیں۔ (Liberalism) کے قائل ہیں مگر جدت پسند گروہ کی طرح نہیں۔"

اس تحریر سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سائز ہے تیرہ سو برس کا اسلام (اما أنا علیہ و أصلحابی) کو چھوڑ کر وہ ایک جدید اسلام امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ صحیح اسلام ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ گراہی ہے۔ اس سے جتنا ممکن ہو جلد سے جلد توبہ کر کے سوادِ عظم میں شمولیت کر لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مخدوم العلماء حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ کو

جزئے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مودودی صاحب اور ان کے متعلقین کو بروقت
متبنہ فرمایا ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی ہے۔ فقط

بندہ عبداللہ غفرلہ، خادم الافتاء و التدریس خیر المدارس ملستان

العبد عبدالحق عفی عنہ مستلزم دارالعلوم حنفیہ، اکوڑہ خٹک

العبد محمد شفیع غفرلہ، مستلزم مدرسہ عربیہ قاسم العلوم ملستان

۳۵۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرتا ہوں۔ مودودی صاحب کے متعلق میرے قلب کی آواز کو حضرت قبلہ مولانا احمد علی صاحب مدفون نے ظاہر فرمایا۔ وہ خطرہ جو کبھی میرے قلب پر گزرتا تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ مودودی صاحب واقعی کوئی نیا اسلام پیش فرمائی ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ مولانا احمد علی صاحب کو تادریس سلامت رکھئے کہ انہوں نے بروقت مخلوق خدا اور امت حبیب کبria ملی طبیعت کو متبنہ فرمائی کر "حق پرست علماء کی مودودیت سے نارانگی کے اسباب" تالیف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مولف موصوف کو اجر جزیل عطا فرمائے اور مودودی صاحب اور ان کے متعلقین کو راہ حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین

احقر محمد اسحق عفی عنہ (فاضل دیوبند)

ناظام مدرسہ حفیہ قادریہ باغبانپورہ لاہور

ہماری دیگر مطبوعات

حضرت مولانا احمد علی الابججی کے خوفروشت
خطبات نایاب مونی
مرتبہ۔ مولانا ابیدر العجمی اطہر

حضرت مولانا عبدالشکر زین پوری کی
تقریبی روروں کا مجموعہ
خطبات دنپوری حلبیں عام

القاریہ کا جو مو
تذکرہ محبوب بکریہ
مرتبہ۔ مولانا عبد الکریم ندیع

منکف علامہ ابرام کی تقاریہ کا جو مو
طبع
مجمع خطبات
مرتبد قارئی محبوب الرحمن اختر

تذکرہ ناہجین مختلف
مرتبہ۔ مولانا عبد الکریم ندیع

توحید و ولادت عکس قرن آن سیرت
علامہ زید بن شویہ پاچی تقریبیں
مولانا اللہ بنخش الفوز

تفسیر نواز القرآن
افدادات
حضرت مولانا محمد اسحق قادری

انوار العلما
منکف اکابر کے حالات و اوقات
مولانا مولانا محمد عظیم مکملوی

التعوذ فی الاسلام
تفسیر سورۃ غلوت
وسورۃ ناس
از حضرت مولانا محمد طاہر بن حافظ محمد اسماعیل بن حضرت مولانا مولانا مسیم بن توڑی